

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَيِّدُ الْكُوْرُ مَن يَخْشَى

# فلاح دارین

جلد چهارم

بيانات

مشهور مفسر قرآن، الحاج حضرت مولانا محمد فاروق صاحب بڑودوی مد نی  
دامت برکاتہم، استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا

مهر اشٹر

تحریک و تحریض

استاذ الاسلام تذہ حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نزوری فاسی<sup>ؒ</sup>  
سابق شیخ الحدیث جامعہ فلاح دارین ترکیسر (گجرات)

مرتب

محمد بلاں اشاعتی ساتونوی

## جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

نام کتاب : فلاح دارین (جلد چہارم)  
 ضبط و ترتیب : محمد بلاں اشاعتی ساتونوی۔  
 بار اشاعت - دوسری مرتبہ ۱۴۳۳ھ  
 اکتوبر ۱۴۰۵ھ  
 تعداد اشاعت : 2200  
 قیمت : Rs. 100

### ملنے کے پتے

- (۱) حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب 9898171655
- (۲) مولانا محمد یحییٰ صاحب نندور باری 9673156472
- (۳) محمد بلاں اشاعتی ساتونوی (مرتب) 9405060763

# ہم خیرامت سے کیوں پکارے گئے

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 18 | مسلمان کیا کرے                | 1  |
| 19 | بہترین امت ہونے کی وجہ        | 2  |
| 20 | ایک مثال سے وضاحت             | 3  |
| 21 | درمیانی راستہ محفوظ ہے        | 4  |
| 22 | اسلام پہنچانے کی ہم فکر کریں  | 5  |
| 24 | ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا گیا | 6  |
| 25 | اچھی عادتیں بھی تبلیغ ہیں     | 7  |
| 26 | عملی تبلیغ کی چند باتیں       | 8  |
| 27 | واقعہ                         | 9  |
| 28 | رحم کرنے پر مغفرت             | 10 |
| 29 | ہمارا حال                     | 11 |
| 30 | اسلام کے معنی سمجھائیں        | 12 |
| 31 | ہمیں خیرامت کا لقب کیوں ملا   | 13 |
| 32 | جنت مفت نہیں                  | 14 |
| 33 | دینداری میں عزت ہے            | 15 |
| 34 | ہماری برپادی کی وجہ           | 16 |
| 34 | ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں  | 17 |

# مدارس اسلامیہ کا وجود اور اس کی برتائیں

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 39 | یوروپ کی تین سازشیں              | 18 |
| 39 | دوسری سازش                       | 19 |
| 42 | تیسرا سازش اور اس کا حل          | 20 |
| 42 | ترقی سائنس پر نہیں، سیرت پر ہے   | 21 |
| 44 | ترقی کن چیزوں سے ہوگی            | 22 |
| 44 | صحابہ نے تمام علوم قرآن سے سکھے  | 23 |
| 45 | قرآن ہی کافی ہے                  | 24 |
| 46 | قرآن میں حق بات کیسے نظر آئے؟    | 25 |
| 49 | اسلام حقیقت سے بحث کرتا ہے       | 26 |
| 50 | علم نام ہے معرفت الہی کا         | 27 |
| 52 | واقعہ                            | 28 |
| 54 | تواضع کی شکل میں تکبر            | 29 |
| 55 | باقع میں علماء دیوبند            | 30 |
| 56 | انقلاب مدارس سے ہی آسکتا ہے      | 31 |
| 57 | گھر اتی مسلمان قابل مبارکباد ہیں | 32 |
| 58 | نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے         | 33 |

# دنیا میں مصیبتوں اور ان کا علاج

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 62 | علاج کے لئے دو چیزیں ضروری   | 34 |
| 63 | آزمائشیں اور ان پر صبر       | 35 |
| 65 | اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں | 36 |
| 65 | دنیا میں مصیبتوں کیوں؟       | 37 |
| 66 | واقعہ                        | 38 |
| 67 | المصیبت کے وقت کیا کریں؟     | 39 |
| 67 | المصیبت کیسے دور کریں؟       | 40 |
| 68 | نماز کے ذریعہ دعائیں         | 41 |
| 69 | صبر سے مشق کروائی جاتی ہے    | 42 |
| 69 | دل صاف ہونا ضروری ہے         | 43 |
| 70 | ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ | 44 |
| 71 | نفس اولامہ کی تعریف          | 45 |
| 72 | نفس مطمئناً کا مطلب          | 46 |
| 73 | آخرت مومن کا وطن ہے          | 47 |
| 74 | واقعہ                        | 48 |
| 76 | عقل نہ چلانیں                | 49 |

# انسان کا ہر قول و عمل محفوظ کیا جاتا ہے

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 79 | مسلمان کا ہر عمل محفوظ ہوتا ہے | 50 |
| 80 | اعضاء گواہی دیں گے             | 51 |
| 80 | زمین کے خزانوں کا مطلب         | 52 |
| 81 | زلزلہ میں سائنسی نظریہ         | 53 |
| 82 | قیامت کے دن رجسٹر ہو گا        | 54 |
| 83 | مولانا قاسم نانو توی کی ذہانت  | 55 |
| 84 | سورہ کہف کی فضیلت              | 56 |
| 84 | سائنس کا اعتراف                | 57 |
| 85 | حضرت عائشہؓ کو تنبیہ           | 58 |
| 87 | نبی ﷺ کی نصیحت                 | 59 |
| 88 | زبان کے کرتوت                  | 60 |
| 88 | کن موقع پر بات کرنی چاہئے      | 61 |
| 89 | تین جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے     | 62 |
| 90 | جھوٹ بولنے کی دوسری وجہ        | 63 |
| 90 | بھل تعریف نہ کریں              | 64 |
| 91 | بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہئے  | 65 |
| 92 | جھوٹ کی تیسرا جگہ              | 66 |
| 92 | آپ ﷺ کا صلح کے لئے جانا        | 67 |

# ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 95  | انسان اشرف الخلوقات ہے         | 68 |
| 96  | فرشتوں کی دعا                  | 69 |
| 97  | بدر میں فرشتوں کی آمد          | 70 |
| 98  | مشرکوں کے لئے شیطان آیا تھا    | 71 |
| 99  | شیطان کیوں نظر نہیں آتا        | 72 |
| 99  | اللہ کی مدد                    | 73 |
| 100 | فرشتوں کے ذریعہ ہماری حفاظت    | 74 |
| 101 | حفاظت کا مدار اعمال صالح پر ہے | 75 |
| 102 | ہماری حفاظت نہ ہونے کی وجہ     | 76 |
| 102 | واقعہ                          | 77 |
| 103 | ہم نے فرشتوں کو ماحول نہیں دیا | 78 |
| 104 | فرشتے دین کی جگہ آتے ہیں       | 79 |
| 105 | فرشتوں کی طاقت                 | 80 |
| 106 | ایمانی پاور رعب پیدا کرتا ہے   | 81 |
| 107 | ایمان مضبوط کریں               | 82 |
| 108 | ہمیں اپنے آپ کو بدلانا ہوگا    | 83 |

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 109 | اللہ تعالیٰ انسان سے بہت قریب ہے | 84 |
| 110 | آیتِ الکرسی کی برکت              | 85 |
| 111 | ذکرِ اللہ کی عادت بنائیں         | 86 |
| 112 | پاک صاف رہیں                     | 87 |

## تعلیم نسوں کی اہمیت اور اس کی برکتیں

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 116 | لطیفہ                              | 88 |
| 117 | لطیفہ                              | 89 |
| 118 | اللہ تعالیٰ مصلحین پیدا فرماتے ہیں | 90 |
| 120 | معاشرہ کی اصلاح عورتوں سے ہوگی     | 91 |
| 121 | عورت پڑھی خاندان پڑھا              | 92 |
| 122 | عورت بہت کچھ کر سکتی ہے            | 93 |
| 124 | عورت اپنی طاقت کا استعمال صحیح کرے | 94 |
| 125 | مرد اور عورت دونوں برابر ہے        | 95 |
| 126 | فطرتاً کچھ باتیں الگ ہیں           | 96 |
| 127 | عمل کے لئے علم ضروری ہے            | 97 |
| 128 | عورتوں کے نادان رہنے کا نقصان      | 98 |
| 129 | عورتوں کو تعلیم دینے کے فوائد      | 99 |

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 131 | جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں     | 100 |
| 132 | مکاتب نسوں کے فوائد               | 101 |
| 133 | سماج، عورت کی اصلاح سے بنے گا     | 102 |
| 135 | عورتیں دراقدس پر جایا کرتی تھیں   | 103 |
| 135 | ماں عائشہ کا احسان عظیم           | 104 |
| 136 | بے پر دگی مالی پریشانی کا باعث ہے | 105 |
| 138 | سیرت پر عمل عزت کا ضامن ہے        | 106 |
| 139 | لندن میں مکاتب نسوں               | 107 |

## عبدالرحمن کون ہیں؟

|     |                                      |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 144 | عبدالرحمن پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا | 108 |
| 144 | عبدالرحمن بنے کامرا                  | 109 |
| 145 | عہد السٹ سے یہی عہد مراد ہے          | 110 |
| 145 | عبدیت اللہ کے بازار میں نایاب ہے     | 111 |
| 146 | نایاب چیز کی قیمت ہوتی ہے            | 112 |
| 147 | پیارے نبی کو بھی لفظ عبد سے پکارا    | 113 |
| 148 | عبدیت والے نام                       | 114 |
| 148 | آدم کا نمونہ کیسے بن سکتے ہیں        | 115 |
| 149 | بندہ بن کر رہنے میں مزا ہے           | 116 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 149 | عبدالرحمن کے ساتھ لفظ رحمٰن کیوں لائے؟ | 117 |
| 150 | کچھ لوگوں کا وسوسہ اور ان کا جواب      | 118 |
| 151 | باطن بنانے کی دلیل                     | 119 |
| 152 | نرمی سے چلنے کو فرمایا آہستہ نہیں      | 120 |
| 153 | آپ ﷺ کے چلنے کا انداز                  | 121 |
| 153 | آپ ﷺ کی عبدیت کا عالم                  | 122 |
| 154 | ملٹری چال بھی ٹھیک نہیں                | 123 |
| 155 | حضرت لقمانؑ کی نصیحت                   | 124 |
| 155 | نماز کے لئے بھاگ کر آنا منوع ہے        | 125 |
| 156 | آپ ﷺ کی تربیت                          | 126 |
| 157 | لاتعد کے تین مطلب ہیں                  | 127 |
| 158 | اکڑ کر چلنے والوں کے ساتھ قبر کا سلوک  | 128 |
| 158 | امام مالکؓ کا مقولہ                    | 129 |
| 159 | عبدالرحمن کی دوسری صفت                 | 130 |
| 159 | جاہل کے ساتھ ابھجھن کا نقصان           | 131 |
| 160 | عبدالرحمن کی تیسرا صفت                 | 132 |
| 161 | رات کی نماز کا ذکر کیوں                | 133 |
| 162 | عشاء اور فجر کی ایک خاص فضیلت          | 138 |

# اسلام میں رشته داری اور اسکی اہمیت

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 165 | تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے | 135 |
| 166 | قرآن پاک کی نظر میں اہل دل               | 136 |
| 166 | رشته داری نہ بھانے والے ملعون ہیں        | 137 |
| 167 | ایک فضیلت                                | 138 |
| 168 | رزق اور عمر میں برکت                     | 139 |
| 168 | قاطع رحم کی دعا قبول نہیں ہوتی           | 140 |
| 169 | انسان کی دور رشته داریاں ہیں             | 141 |
| 170 | خاندان بنانے کا مقصد                     | 142 |
| 171 | رشته داری میں بد لئنہ چکائیں             | 143 |
| 172 | آپ ﷺ کی شان رسالت                        | 144 |
| 173 | رشته داری کے سلسلہ میں تاکیدی نظریہ      | 145 |
| 174 | رشته داری بے غرض بھائیں                  | 146 |
| 174 | زکوٰۃ کے مستحق اولاً رشته دار ہیں        | 147 |
| 175 | رشته داری بھانے والا رسول نہیں ہوتا      | 148 |
| 176 | وجی بھاری ہوتی ہے                        | 149 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 177 | مشرک والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم   | 150 |
| 177 | غیر رشته دار سے بھی قطع تعلق درست نہیں | 151 |
| 178 | رشته داری نبھانے میں دو گناہ جرے       | 152 |
| 179 | اپنے نام کے لئے خرچ نہ کریں            | 153 |
| 179 | ہمیں رشته دار یا نبھانی ہو گی          | 154 |

## قرآن پاک رشد و ہدایت کی کتاب ہے

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 184 | ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا          | 155 |
| 184 | ہدایت کے دو سلسلے ہیں               | 156 |
| 186 | انبیاء مقصوم ہوتے ہیں               | 157 |
| 187 | یک وقت بہت سارے انبیاء              | 158 |
| 188 | امت محمد یہ ﷺ کی خصوصیت             | 159 |
| 188 | ملک کا بھی قانون ہوتا ہے            | 160 |
| 189 | قرآن کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی      | 161 |
| 189 | قرآن پاک کے لئے ہمارا انتخاب ہوا ہے | 162 |
| 190 | بے طلب عہدہ میں برکت ہوتی ہے        | 163 |
| 191 | انسان حامل قرآن ہے                  | 164 |
| 192 | اللہ تعالیٰ کی شکایت                | 165 |

|     |                                  |     |
|-----|----------------------------------|-----|
| 192 | تلاوت عمل کے لئے ہو              | 166 |
| 194 | گجراتی قوم کا عامل               | 167 |
| 194 | اپنی نسل کو قرآن پاک سے جوڑ دیئے | 168 |
| 195 | کامیاب شخص                       | 169 |
| 196 | رمضان کا پیغام                   | 170 |

## غصہ سے پر ہمیز تبھی

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 197 | غصہ برداشت کرنے کی فضیلت    | 171 |
| 197 | غصہ پینے کا طریقہ           | 172 |
| 198 | غصہ کو شیطان سے تعلق ہے     | 173 |
| 199 | غصہ ختم کرنے کا دوسرا طریقہ | 174 |
| 200 | غصہ ختم کرنے کا تیسرا طریقہ | 175 |
| 201 | واقعہ                       | 176 |
| 202 | قرآن سب سے مقدم             | 177 |
| 203 | اپنی ذات کا بدلہ نہ لیں     | 178 |
| 203 | بلندی اخلاق کا اثر          | 179 |
| 204 | خوشی اور غمی اللہ کے لئے ہو | 180 |

|     |                                  |     |
|-----|----------------------------------|-----|
| 205 | واقعہ                            | 181 |
| 205 | آپ ﷺ کا بلند مقام                | 182 |
| 206 | انبیاء کرام سے عہد               | 183 |
| 207 | شان رسالت کا تقدس                | 184 |
| 208 | آپ ﷺ تمام انبیاء کے لئے شاہد ہیں | 185 |
| 209 | معراج کا تخفہ                    | 186 |
| 209 | واقعہ                            | 187 |
| 211 | امت کو تعلیم دینا مقصود ہے       | 188 |
| 212 | نرم مزاج اختیار کریں             | 189 |
| 212 | قدرت کے باوجود معاف کرنا افضل ہے | 190 |
| 212 | معاف کرنے کی فضیلت               | 191 |
| 212 | واقعہ                            | 192 |
| 214 | عجیب و غریب واقعہ                | 193 |
| 215 | حیاء کا واقعہ                    | 194 |
| 215 | اللہ تعالیٰ سے حیاء کا مطلب      | 195 |
| 216 | سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے          | 196 |
| 216 | ریاء کاری سے بچئے                | 197 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 217 | ریاء کاری کا انجام                          | 198 |
| 218 | ایمان کے ستر سے زائد شعبہ ہیں               | 199 |
| 219 | اللہ تعالیٰ سے حیاء کجھے                    | 200 |
| 219 | حیاء کیسے پیدا ہوتی ہے                      | 201 |
| 219 | قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے | 202 |

## اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 223 | عورت انسان کی فطرت ہے             | 203 |
| 224 | شادی آدھا ایمان ہے                | 204 |
| 224 | عورت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے      | 205 |
| 225 | مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہے      | 206 |
| 226 | خطبہ نکاح میں تقویٰ کا حکم کیوں؟  | 207 |
| 227 | خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تائید  | 208 |
| 228 | عورتیں اپنے آپ کو مثالی بنائیں    | 209 |
| 228 | عورتوں کے بھی حقوق ہیں            | 210 |
| 229 | بیوی سے محبت تقویٰ ہے             | 211 |
| 229 | میراث میں عورت کا حصہ             | 212 |
| 230 | زمزم ایک خاتون کی قربانی کا نتیجہ | 213 |
| 231 | مرد حضرات ذہن سازی کا کام کریں    | 214 |

بسم الله الرحمن الرحيم

## اقتباس

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت کی زبان میں بھی لکھت تھی جس وقت میری عمر نو سال کی تھی میں اچھی طرح سمجھ بو جھ رکھتا تھا، میرے والد صاحب دامت برکاتہم مجھے جماعت میں ساتھ لیجا یا کرتے تھے اور اس وقت میں حافظ بن رہا تھا اس لئے میواتی لوگ مجھے بہت زیادہ محبت اور پیار کر رہے تھے، مجھے برابر ان حضرات کے جملے یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا محمد الیاس صاحب "کو صحیح طریقہ سے تقریر بھی نہیں کرتے آتی تھی مغرب کی نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی تو تلاتی ہوئی زبان میں صرف اتنا کہتے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو کا میا ب ہو جا وے گے، لیکن ان کی یہ آواز زبان کی نہیں تھی بلکہ دل کی آواز تھی، ایک فکر تھی۔ جس نے پورے عالم میں انقلاب پیدا کر دیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

# اہم خیرامت سے کیوں پکارے گئے؟

الحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونومن به ونتو کل علیہ  
 ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا  
 مصل له ومن یضلله فلا ها دی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده  
 لاشريك له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسوله  
 صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وعلی الہ واصحابہ وازواجہ  
 وذریا تھ واهل بیتھ واهل طاعتھ وبارک وسلم تسليما کثیرا  
 کثیرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن  
 الرحيم، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى أَنْتُمُ الْأَعْلَمُ إِنْ  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وقال النبي ﷺ فی خطبته فی  
 حجۃ الوداع فَا لَیَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، صدق رسوله النبي الامی  
 الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاھدین والشاکرین والحمد  
 لله رب العالمین:

# مسلمان کیا کرے؟

محترم بھائیو بزرگوار دوستو!

اگر آپ دنیا میں سفر کریں یا آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو اس وقت مسلمان پوری دنیا میں ایک سوال کرتا نظر آتا ہے، تقریباً پانچ دس سال سے ایک حال پوری دنیا پر چلا آ رہا ہے، باخصوص آخری دو سال سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس زمانہ میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ اور یہ سوال ہر ایک کو ہو رہا ہے، مجھ کو بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہو گا، ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہو رہا ہے، لیکن اسلام کے بہت بڑے اسکا لر عرب و حجم کی مانی ہوئی ہستی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندویؒ اپنی ایک کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا سوچنا اور یہ کہنا کہ اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔

ڈاکٹر اگر کسی کو پوچھئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ اس کی بے وقوفی ہے، نائی اور جام جس کے ہاتھ میں وسٹرایجی ہوئی بھی ہو، وہ یہ سوال کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوال اس کی بے وقوفی ہے، اس لئے کہ تجھے ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ ملا ہے، تو تجھے سرجری کھول کر بیٹھنا چاہیے، کوئی نجی یا وکیل ہے تو اس کو سندھلی ہے مسائل کے حل کرنے کی، اس کو کورٹ جا کر اپنے مخصوص یونیفارم میں اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک عالم اور ایک مولوی جس کو شعبان یا اس کے علاوہ دیگر مہینوں کے جلسہ میں سند ملے اور وہ سوال کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسکا یہ کہنا اور اس کا یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے، اس لئے کہ علماء کرام کے ہاتھوں تجھ کو دستار باندھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں اب تو امت

کی خدمت کے قابل ہوا ہے، تو امت کی راہ میں چلا جا، اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں اور کائنات کو عمدہ طریقہ سے برداشت کر کے امت تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاد دینا، یہ تیرا کام ہے مسلمان کا سوال کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اس کی بے وقوفی ہے۔

اس لئے کہ اس کو ایک مقصد دے کر بھیجا گیا ہے اس کو ایک منزل مقصود کا پتہ دے کر دنیا میں روانہ کیا گیا ہے اسی مقصد کی طرف آج کی تراویح کے پارہ نمبر چار کے پہلے رکوع میں ہی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اے امت محمدیہ ﷺ تمہیں دنیا میں ایک بڑے مقصد کو لیکر بھیجا گیا ہے تمہیں ایک مضمون کو لیکر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر اس مقصد میں تم اچھے اترے تو تم اچھے کہے جانے کے مستحق ہو، اور اگر تم اس مقصد میں فیل ہو گئے تو تم امت تو کیا انسان بھی کہے جانے کے قابل نہیں رہو گے۔

## بہترین امت ہونے کی وجہ

اور وہ مقصد کیا ہے جس کی بنا پر اس امت کی تعریف کی گئی ہے،؟ قرآن پاک نے اس امت کو چوتھے پارے میں خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امة، کہ تم بہترین امت ہو، مسلمان قوم ہو، حضور ﷺ کا نام لینے والی قوم ہو، دنیا میں اس سے اچھی کوئی قوم نہیں ہو سکتی، اور اس امت کو سب سے اچھا کیوں کہا گیا؟ اسکی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہتر اس لئے ہو کہ تمہیں دنیا والوں کے نفع کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

اور ایک بات ذہن میں لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا منشاء یہ ہے کہ پوری دنیا کے نفع کے لئے پیدا کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے نفع کے لئے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے نفع

کے لئے تم کو پیدا کیا گیا، بلکہ قرآن مجید نے، ناس، کالفاظ استعمال کیا ہے، اور ناس کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا یعنی انسانیت، وہ لوگ غلط فہمی میں بنتلا ہیں، انہوں نے اسلام کو صحیح طریقہ پر نہیں سمجھا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے درمیان میں ہی پھیلایا جائے، اور غیر مسلموں میں نہ پھیلایا جائے، یہ نظریہ غلط ہے، اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی ہدایت کے لئے اس امت کو اتارا گیا ہے۔

## ایک مثال سے وضاحت

اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے مجھ کو کسی کام سے لندن بھیجا ہو، اور میں وہ کام کر کے آجائوں تو آپ مجھ کو شabaشی دیں گے، آپ مجھ کو میرا پورا پورا بدلہ چکائیں گے، آپ کی نظر میں میرا مقام بڑھ جائے گا، اور آپ مجھ کو بارہ ہزار دیتے تھے، تو کام اچھا ہونے پر پندرہ ہزار دیں گے، لیکن اگر میں نے اس کام کو نہیں کیا یا یہ کہ میں نے اس کام میں لوچا مار دیا، صحیح طور پر نہیں کیا، تو آپ اجرت تو کیا دو گے پوری دنیا میں بدنام کر دو گے کہ یہ بیکار آدمی ہے، مجھے اس کے اوپر اعتماد تھا بھروسہ تھا لیکن اس نے میرا کام بگاڑ دیا، بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اپنا نام نہیں بنا کر، اپنا ترجمان بنا کر، کسی جگہ یا کسی جلسہ وغیرہ میں اپنی طرف سے ترجمانی کرنے کے لئے بھیجا ہو، اگر میں نے آپ کی شخصیت کا پورا خیال کر کے آپ کے دیئے ہوئے کام کو پورے طریقہ سے ادا کیا ہو تو عزت صرف میری نہیں بڑھے گی بلکہ آپ کی بھی عزت بڑھ جائیگی۔ اور لوگ کہیں گے کہ فلاں آدمی نے اپنا نما کشندہ اچھا بھیجا ہے کہ اس نے صدر صاحب کی غیر حاضری محسوس نہیں ہونے دی۔

اور آپ کے دل میں بھی میری عزت بڑھ جائیگی اس لئے کہ آپ کی نیک نامی اور آپ کی عزت بڑھانے کا میں ذریعہ بناء ہوں، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم ﷺ کو اس دنیا میں جس مقصد کے لئے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل کے لئے اس مقصد میں سہارا بننے کے لئے اس مقصد میں مددگار بننے کے لئے اس پوری امت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اگر ہم نے حضور ﷺ والے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے پہنچانے میں ہم نے اپنی زندگی بسر کر دی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو شabaشی دے گا، کہ میں نے اس بندہ کو جس مقصد سے بھیجا تھا وہ اس میں کامیاب ہو کر آیا ہے۔

## درمیانی راستہ محفوظ راستہ ہے

اور دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور آج کے پارے کے اندر اسی کی تفسیر کی گئی اور قرآن کی تفسیر سب سے بہتر قرآن پاک ہی کرتا ہے اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنی بات میں کیا کہنا چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تو ایک جگہ قرآن پاک نے حضور ﷺ کی اس امت کو جو امت حضور ﷺ کو مانتی ہیں اس کو، اُمَّةً وَسَطًا، کہا گیا ہے کہ تم درمیان کے راستے کو پکڑ کر چلنے والی امت ہو، اور ہم بھی جانتے ہیں راستے کے درمیانی حصہ کو جو پکڑ کر چلتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، جو ڈرائیور گاڑی کو راستے کے درمیان میں نہ چلائے ادھر ادھر بھگائے تو اس کی گاڑی کے سلپ ہو جانے کا بہت ہی امکان ہوتا ہے۔

لیکن درمیان میں جب تک یہ چلتا رہے گا سلامتی کے ساتھ چلتا رہے گا، اسی کو قرآن مجید کی ایک آیت کہتی ہے کہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے نبی ﷺ آپ دنیا والوں سے کہد تھے! کہ میرا جوراستہ ہے جس پر میں چلا ہوں میرے صحابہ چلے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے تم اسی راستہ پر چلو، اگر ادھر ادھر تم نے جانے کی کوشش کی تو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم راستہ سے بھٹک جاؤ گے، حضور ﷺ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی عادت تھی کہ حضور ﷺ عملی مشق کے ذریعہ بھی سمجھاتے تھے تو حضور ﷺ نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی اور چند لائیں کھینچی، اور فرمایا کہ میں نے چند لکیریں کھینچی ہیں درمیان میں ایک لکیر جارہی ہے، اور دائیں اور بائیں بھی لکیریں جارہی ہیں فرمایا کہ شیطان برابر انسان کو کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، انسان سلامت رہے گا جب تک کہ درمیان کے راستہ پر رہے گا۔ اس کو وسط الطريق اور سواء الطريق کہا گیا ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ یہی دعوت والا راستہ ہے جس میں ہمارے تمام مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ خانقاہیں اور رفاقتی و دینی کام شامل ہیں لہذا ہم اس کی فکر کریں۔

## اسلام پہنچانے کی ہم فکر کریں

لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی چال سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے حضور ﷺ کے پیغام کو پہنچانے کی بالکل کوشش نہیں کی، میں آپ لوگوں سے عمر میں چھوٹا ہوں لیکن ایک بہت بڑی بات کہہ

رہا ہوں بُرا لگے تو معافی مانگتا ہوں، کہ اگر ہم مسلمانوں نے حضور ﷺ کے پیغام کو اپنی زبان اور عمل سے پہنچانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی بھی انسان حضور ﷺ کے دین سے دور نہ رہتا، لیکن ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے سامنے مثال ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے موصوف سے کس انداز کا کام لیا وہ ہمارے سامنے ہے آج پورے عالم میں مولانا الیاس کی دینی جماعت کام کر رہی ہے۔

حضرت کی زبان میں لکنت تھی جس وقت میری عمر نو سال کی تھی میں اچھی طرح سمجھ بو جھ رکھتا تھا، میرے والد صاحب دامت برکاتہم مجھے جماعت میں ساتھ یجایا کرتے تھے، اور اس وقت میں حافظ بن رہا تھا اس لئے میواتی لوگ مجھے بہت زیادہ محبت اور پیار کر رہے تھے، مجھے برابر ان حضرات کے جملے یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا محمد الیاس صاحب گو صحیح طریقہ سے تقریبی نہیں کرتے آتی تھی، مغرب کی نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی تو تلاتی ہوئی زبان میں صرف اتنا کہتے تھے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ان کی یہ آواز زبان کی نہیں تھی بلکہ دل کی آواز تھی، ایک فکر تھی اور آدمی جب کسی چیز کی فکر کو اوڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس آواز کو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچایا۔ کسی بھی کام کو فکر سے کام کرنے کی مثال دیکھو کہ اگر آپ کو صحیح پانچ بجے کی ٹرین پکڑنی ہے یا آپ تھکے ہوئے ہو تو رات میں بار بار آپ کی آنکھ کھلتی رہے گی، کوئی آلام کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بے فکری کی نیند نہیں ہوگی، اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے پانچ بجے کی فلاٹ پکڑنی ہے، اسی لئے آپ نے کبھی نہیں

سنا ہو گا کہ کسی نے کہا ہو کہ میری فلاٹ اس لئے چھوٹ گئی کہ آنکھیں کھل سکی، اور اگر کوئی اس طرح کا بہانہ بنائے تو وہ چھوٹ بول رہا ہے اس لئے کہ فکر ہوتی ہے، اور اگر فکر ہی نہ ہو تو گدھ کی نیند سوتے ہیں الارم بھی بجتا ہے تو اس کو دبادیتے ہیں، اسی لئے سعودیہ والوں نے ایک الارم گھڑی اس طرح کی ایجاد کی ہے کہ وہ دبانے کے بعد بھی خود سے بار بار نجاتی رہتی ہے اس کے کوہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جلدی نہیں اٹھتا ہے۔

## ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا گیا

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ، تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ہم پوری دنیا کو اللہ کے رسول ﷺ کا دین اللہ کے رسول ﷺ کی تعلیمات حضور ﷺ کی سنتیں پہنچاتے رہیں، اور جن باتوں سے حضور اکرم ﷺ نے مجھے اور آپ کو روکا ہے ان سے ہم بچتے رہیں، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو داکرتے رہیں، تو انشاء اللہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اور ہم قرآن پاک کی زبان میں خیر امۃ یعنی بہترین امت کے جائیں گے، اور اگر ہم اس مقصد میں پورے نہیں اترے تو وہی قرآن نویں پارے میں ایک جگہ فرماتا ہیکہ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذًانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا اولئکَ کَمَا لَانِعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، انسان جس مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔

## اچھی عادتیں بھی تبلیغ ہیں

اگر آپ کہیں کہ ہم کام کریں، فیکٹری پر جائیں یا صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہی لوگوں تک پہنچائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر دوکان پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے گراہک کے ساتھ امانت داری، دیانت داری، اور سچائی کے ساتھ لین دین کا سلوک کیا تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ہے، آپ فیکٹری میں گئے جس وقت آپ نے فیکٹری میں قدم رکھا آپ نے وہی ٹائم رجسٹر میں لکھا، یہ بھی امر بالمعروف ہے، آپ نے صحیح طریقہ کے مطابق اپنے ساتھیوں اور اپنے سیمیٹھ کے ساتھ سلوک کیا تو یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے، جیسے انسان اپنی زبان سے تبلیغ کرتا ہے ایسے ہی انسان اپنی آنکھ، اور اپنے ہاتھ، اور اپنے پیر سے بھی کر سکتا ہے، اس کا عمل پوری دنیا کے لئے نمونہ بن جاتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو کوئی معدود رآ گیا یا کوئی عورت آگئی آپ نے اس کو بیٹھنے کے لئے جگہ دیدی، یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے، سچ تو یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو اپنے اعمال سے بدنام کیا، لوگ ہم سے متوضش ہیں ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں مانا کہ ہم ہر ایک کے پاس دین کا پیغام لے کر نہیں جاسکتے، لیکن اپنے اعمال سے ان کو اسلام سے دور بھی تو نہ کریں، وہ بے چارہ کچھ اسلام کو سیکھنے لگتا ہے، اور ہمارے کام کا ج دیکھ کر ہمارا معاشرہ دیکھ کر ہمارے برے اخلاق دیکھ کر اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اب اس کا انجام اور اس کا گناہ بھی ہمارے ہی سر پڑے گا، اس لئے اللہ کے بندو ایسا کوئی عمل ہم غیر قوم کے ساتھ اختیار نہ کریں جس سے اسلام کی غلط ترجمانی ہو، ایسے اعمال ہم کریں جس سے اسلام کی صحیح ترجمانی ہو۔

## عملی تبلیغ کی چند باتیں

آپ دیکھئے! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسلام کو اپنے اخلاق سے عام کیا بلکہ خود نبی اکرم ﷺ نے اپنے اخلاق سے اسلام پھیلا یا اس میں اخلاق کا بہت بڑا دخل ہے، صحابہ نے تجارت کی لیکن خراب گیہوں کو خریدا، اس کو صاف کیا اور اسی دام میں مارکٹ میں لائے ہم اچھے گیہوں اوپر رکھتے ہیں اور خراب اندر، صحابہ خراب مال اوپر رکھتے تھے، تاکہ معاملات صاف رہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات سے پیش آئیں، کسی کو قرض دیا ہو تو اس کو قرض ادا کرنے کے لئے زیادہ پریشان نہ کریں، بلکہ مہلت دیں، کوئی بیمار ہو تو اسکی عیادت کریں، کسی کے یہاں خوشی یا غمی کا موقع ہو تو اس میں شرکت کریں، جو پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی حقیقت الامکان فکر کریں، اس سے انشاء اللہ اسلام خوب پھیلے گا۔ اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں عام کیا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے جنگیں اڑی جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو اس کے اندر کسی قسم کا طوفان نہیں مچاتے تھے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تو آتا ہے کہ قیدیوں کی عیادت کے لئے بذاتِ خود تشریف لے جاتے تھے۔

جب کہ دیگر قوم والے جب کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو وہاں شر مچاتے وہاں کی عزتیں نیلام کرتے، وہاں کے بے گناہ لوگوں کو ناحق قتل کر دیتے، اکابرین کے ان

اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی کہیں پورا علاقہ اسلام سے مشرف ہو گیا، کہیں دشمن خود اسلام لانے پر مجبور ہو گیا، کہیں قتل کرنے والا آیا تھا قتل کرنے کے لئے، لیکن ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دشمن کی پوری داستان سنادی، خلاصہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ میں اعمال کا اور ہمارے اخلاق کا نیز ہمارے کردار کا بہت بڑا دخل ہے ہم اس کو استعمال کریں، ورنہ قیامت کے دن زبانی تبلیغ نہیں کی اس کا تو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں رہے گا اگر عملی تبلیغ بھی نہیں کی تو کیا جواب دو گے؟

## واقعہ

میں آپ کو ایک واقعہ سنا تاہوں سال گزشتہ جب میں مانچیستر (لندن) میں تھا تو میں وہاں بدھ کے دن سپر مارکیٹ میں گیا تو وہاں واشنگ پاؤڈر کا سیل لگا ہوا تھا لیکن وہاں پابندی تھی کہ ایک آدمی صرف تین بوکس لے سکتا ہے، تو میرے دوست نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بھی تین بوکس لے لیجئے میں نے کہا کہ مجھے تین بوکس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھ کو سمجھایا کہ یہ لوگ ایک آدمی کو صرف تین بوکس دے رہے ہیں، میں چھ بوکس نہیں لے سکتا، آپ یہ تین بوکس کا ونڈرتک اٹھایے، اس کے بعد میں اپنی ٹرالی کے اندر وہ بھی ڈال دوں گا، خیر میں نے ایسا کر لیا لیکن بعد میں میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سب چکر کیوں چلایا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد وہی دوست گھر آنے کے دوسرے دوچار دوستوں کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اور زیادہ بوکس وہاں سے اٹھا کر لائے۔

میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ واشنگ پاؤڈر کے بوکس سنتے دیتے ہیں، اور ہمارے ایشیاء کھنڈ کے لوگ ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز ستری ملے

تو پورے سال کا ذخیرہ کر لیں گے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت تین پاکٹ میں پوری ہو جاتی ہے، اس لئے اس کو صرف تین پاکٹ کی اجازت دی جائے تاکہ ہر آدمی اس کا فائدہ اٹھائے، فوراً میرے دماغ میں ایک بات آئی ہم لوگوں نے ہدایت نامی کتاب میں پڑھا ہے اور امام بخاریؓ نے کتاب البيوع میں باب الاحتکار میں ذکر کیا ہے کہ جس چیز کی امت کو ضرورت ہو، اور آپ نے اس چیز کو اپنے گودام میں جمع کر کے رکھا ہے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور پورے فرشتوں کی اور پورے انسانوں کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے، اب اس پر عمل انگریز کر رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، اس کو ستے دام میں عام کر رہا ہے، اور مسلمان دنادن بھر رہا ہے، دنیا چاہے بھوکی پیاسی مرے اپنے کو کیا لینا دینا، اسلام پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ نے گیہوں کو اس وقت نکالا جب کہ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی تو آپ نے اسلام کی ایک تعلیم کو عام کیا یہ بھی تامرون بالمعروف میں داخل ہے، یہ چلہ چار مہینہ کے ذریعہ عملی مشق ہی کروائی جاتی ہے اسی لئے آپ سنتے ہو گئے کہ یہ چلہ چار مہینہ لگانے کا مقصد مقامی کام پر جمنا ہے تو مقامی کام پر جمنے کا مطلب یہی ہے کہ گھر بار، سفر حضر، لین دین، معاملات معاشرت، وغیرہ میں اسلامی نظام کو عام کیا جائے، ایمان والے کا بولنا بھی تبلیغ ہو، ایمان والے کا سننا بھی تبلیغ ہو، ایمان والے کا ہر کام تبلیغ ہو، حتیٰ کہ ایمان والے کا دیکھنا بھی تبلیغ ہو۔

## رحم کرنے پر مغفرت

اس وقت اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ کہ اسلام دنیا کو دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس نے ایک کتنے کو جو

پیاس کی وجہ سے بلبلہ رہا تھا ستر سال تک زنا کرنے والی عورت نے اس کتنے کو اپنے پیر کا موزہ نکال کر اس کو کنویں میں لٹکا کر پانی پلا دیا تھا آسمان سے آواز آئی کہ بھلے تو نے ستر سال بد کاری میں لگا دیئے ہو، لیکن میری ایک بے زبان مخلوق کو تو نے پانی پلا دیا، جامیں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے، اسلام تو ایسا نہ ہب ہے، جو اسلام کسی جانور کی جان بچانے پر اتنی زیادہ فضیلت دے سکتا ہے کیا وہ کسی کو قتل کرنا سکھا سکتا ہے، اسی طریقہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت تمام عبادتیں کرتی تھی رکوع سجدے نماز سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس نے ایک بیلی کو بند کر دیا اس کو کھانا نہیں دیا اس کو پانی نہیں دیا وہ بیلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ کر مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اس کی کوئی عبادت کام کی نہیں، اس لئے کہ اس نے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔

## ہمارا حال

آج اسلام اگر بدنام ہو رہا ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ٹرین وغیرہ میں جگہ نہیں دیتا ہے، کوئی کسی غریب سے اچھی طرح دل ملا کر بات نہیں کرتا، کوئی پڑوی کے ساتھ نبیوں والا سلوک اور صحابہ کرام کے اخلاق سے پیش نہیں آتا، کوئی کسی غیر مسلم سے اخلاق سے پیش نہیں آتا، ہمارا حال یہ ہے کہ دوکان والے نے اگر کھوٹا سامان دیا تو ہم لڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اگر کسی رکشو والے نے تین سیٹ کی تھی لیکن اس کو چوتھا بھی مل گیا تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ دادا گری کرتے ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے اسلام کی غلط ترجیحی ہوتی ہے ان لوگوں کو کیا معلوم کر یہ اسلام کے خلاف کر رہا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام ہی اس طرح ان کو سکھاتا ہے۔ جب کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ گراہک کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو واپس لے لو، اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک سے اچھی بات کرو چاہے وہ مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، سفر میں مزاج نرم رکھو، بلکہ مزاج ہر جگہ نرم بناؤ، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اب اگر اسلام کی یہ تعلیمات ہمیں ہی معلوم نہ ہوں تو ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک کیسے پہنچاسکیں گے۔

## اسلام کے معنی سمجھائیں

میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے کالجوں میں اپنی سوسائٹی میں لوگ ہم سے اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، ہم ان کو اسلام سمجھائیں، ان کے ساتھ اخلاق سے رہیں، آج کل میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے درپے ٹلا ہے، ان کو خاص طور پر یہ بات سمجھائیں کہ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے آتے ہیں جس مذہب کے معنی میں ہی سلامتی کا لفظ ہو، وہ مذہب کسی کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جب آپ سے کوئی اسلام کے بارے میں سوال کرے تو آپ اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے اس کو صرف اسلام کے نام سے سمجھادیں انشاء اللہ وہ اسلام کی اندر کی باتوں کو جانے پر مجبور ہو جائے گا، اور ایمان کے معنی امن و شانی کے آتے ہیں اس لئے اسلام نے پہلے ہی کہدیا کہ،

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لُسَانِهِ وَيَدِهِ، مُسْلِمٌ وَهُوَتَابٌ جَسَّ كَي  
زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو  
سمجھا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے تو روزہ رکھنا ہے چند مرتبہ نمازیں پڑھنا ہے  
اور بس، نہیں میرے بھائیو!! اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہر جگہ انسانیت کی رہبری  
کرتا ہے۔

## ہمیں خیرامت کا لقب کیوں ملا؟

اس لئے میں آج کی مجلس میں سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ  
دلانا چاہتا ہوں کہ ہم حضور ﷺ کی امت ہیں اور خیرامت کا ہم کو لقب ملا ہے  
سوال یہ کہ ہمیں خیرامت کا لقب کیوں ملا؟ جواب یہ ہے کہ ہماری نسبت حضور  
علیؑ کے ساتھ وابستہ ہے اور حضور ﷺ کی نسبتیں بہت بلند تھیں حضور علیؑ  
کورات رات بھرامت کی فکر میں نیند نہیں آتی تھی، ہم کو خیرامت کسی مقصد کے  
تحت کہا گیا ہے، اور وہ دعوت والا مقصد ہے تبلیغ والا مقصد ہے آپ ﷺ امت  
کی فکر میں بے چین رہتے تھے، ورنہ کیا ایک آفرآپ ﷺ کو نہیں کی گئی تھی یاد  
کچھ سیرت کے اس قصہ کو کہاں مکنے آپ ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب  
کے پاس آ کر کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، ورنہ ہم کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور  
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بھتیجے سے کہیئے کہ اگر وہ کوئی لڑکی چاہتے ہیں  
تو ہم عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ان کو دینے کو تیار ہیں اگر وہ مال  
چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔

لیکن آپ ﷺ نے اس مقصد کو سامنے رکھا تھا اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ، وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، کہ پچھا آپ کا پچھا ہونا میری سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج رکھیں تب بھی میں اپنے اس فریضہ دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن دعوت والی نسبت بند نہیں ہو سکتی، اس نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان سب سے بہتر ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا جنت کا سر ٹیکٹ مل ہی گیا، بہتر ضرور ہے لیکن اس کی وجہ یہ دعوت والا کام ہے۔

## جنت مفت نہیں

قرآن پاک نے آج پڑھے جانے والی تراویح میں یہ بھی کہا کہ : اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم نے ایسا سمجھا ہے کہ جنت میں مفت ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں ہم مفت میں نہیں جائیں گے بلکہ آزمائشیں ہیں اللہ کے دین کے لئے چلنا پڑے گا اس کے راستے میں صبر سے کام لینا پڑے گا، مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، علامہ اقبال کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا ان کا ایک شعر ہے کہ۔

چوں میگویم مسلمانم بل رزم

کہ دانم مشکلات لا الہ را

کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں اس لئے کہ کلمہ پڑھ لینا قید خانہ میں آ جانا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بہت پہلے

فرمادیا کہ، **الَّذِيَا سِجْنُ الْمَوْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ**، کہ دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے، کافر کے لئے پارک ہے اس کے لئے سیر و تفریح کی جگہ ہے اور جیل میں من پسند کھانا بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جیل میں اگر تم ٹھیک رہے تو اس کے بعد تم کو عزت دی جائیگی۔

انسان اگر اس دنیا میں ٹھیک رہتا ہے تو عزت تو یہاں ملے گی ہی آخرت میں بھی تم سکون سے رہو گے، اور اگر کوئی کہے کہ دنیا میں تم کو پارک میں گھومنا ہے عیش کرنا ہے اور اس کے بعد سزا ہو گی تو عقلمند آدمی پہلی والی چیز یعنی قید اور اس کی مشکلات کو برداشت کرے گا، اس لئے کہ وہ سوچے گا کہ تھوڑے دن تکلیف ہے بعد میں آرام ہے قرآن پاک نے یہی کہا کہ، **وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى**، کہ اگر تم نے دنیا میں مشکلات کو برداشت کیا تو آخرت کا گھر تمہارے لئے بہتر ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کیا اور اگر مقصد کو پورا نہیں کیا تو دنیا میں بھی بے عزتی ہے، اور آخرت میں بھی بے عزتی ہے۔

## دین داری میں عزت ہے

آپ دیکھئے، ہندوستان کے حالات کافی خراب ہیں لیکن بس میں، ٹرین میں کوئی برقعہ پوش عورت ہو تو ہندو بھی کھڑے ہو کر جگہ دیتے ہیں اس کا دل اندر سے گوارہ نہیں کرتا کہ یہ خاتون کھڑی رہے، اس لئے کہ وہ عورت اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے میرے بھائیو! محمد رسول اللہ ﷺ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت رکھی ہے اگر اس کو حقیقت میں اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کتنی عزت سے نوازیں گے، اگر کوئی ڈاڑھی پاجامہ والا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس لئے کہ اس نے رسول

اللہ ﷺ کی سنت کو اپنے بدن سے ملایا ہے اگر اس نے رسول اللہ ﷺ کی سنت کو اپنے دل سے اگالیا تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ، مَنْ أَذَلِيَ وَلِيًّا فَقَدْ أَذْنَتُهُ بِالْحَرْبِ، کہ جس نے میرے کسی بندے کو میرے تعلق کی بنا پر تکلیف پہنچائی تو اس کا بدلہ لینے کے لئے میں خود اترپڑتا ہوں، اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی نظر میں ذلیل ہیں اس لئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا، ہم نے مقصد کو بھلا دیا اگر ہم مقصد پر جنم رہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، يَا أَيُّهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَا دِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔

## ہماری بربادی کی وجہ

اور ہم لوگ صرف مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ارے بھائی مال جمع کرنا مکان بنانا یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی سونگھ کر کھاتے ہیں لیکن انسان سونگھنا بھی نہیں اس کو ہڑپ کر جاتا ہے جس کی بنا پر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہو گیا ہے، اسی لئے پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نظارہ دیکھ رہا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر یہ قوم جا گئے والی نہیں ہے، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔

## ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں

آج ہم یہ تجیہ کریں کہ ہمیں نبی کے طریقہ پر زندگی گزارنی ہے اور ہم نے

نبی کے طریقہ پر زندگی گزاری اور پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دیا تو قرآن کا اعلان ہے کہ، **فَلِإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ،** کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، ان کے طریقوں پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور دیکھو ایک تو ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور ایک وہ جس سے محبت کی جائے، محبوب کے تمام خرے برداشت کرنے پڑتے ہیں جو نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسکی ہر فرماںش پوری کی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج بارش ہو تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں۔

وہ کہتا ہے فلاں کام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ اس کی تمام فرمائشیں مکمل فرماتے ہیں۔ اسی کو نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے کہ، **رَبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْاْقَسَمَ عَلَى اللَّهِ لَاَبَرَّ،** کچھ پر اگنہ حال و بال لوگ جن کے کپڑوں کاٹھ کا نہ نہیں، جن کے بالوں کاٹھ کا نہ نہیں، بظاہر ان کا کوئی مقام نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ چیلنج کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چیلنج کو پورا فرماتے ہیں، بہر حال ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی کوشش کریں اور محبوب اسی وقت بنیں گے جب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم ﷺ کے طریقوں پر چلیں گے، اور ان کے پیغام کو عام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مقصد پر کام کرنے والا بنائے۔

**وَصَلِّ اللَّهُوَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الْهَ وَاصْحَابِهِ جَمِيعِينَ**

**وَالْخَرْدَعُونَا نَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

بسم الله الرحمن الرحيم

## اقباس

بلکہ میں ایک جملہ کہدوں جو پورے بیان کا خلاصہ ہو سکتا ہے کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں! اگر تم ہندوستان میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہو، اور اس صفحہ ہستی پر اپنا نام ثبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان مدارس کو باقی رکھنا ہو گا اگر یہ مدارس مت گئے یا کمزور ہو گئے تو تم بھی مت جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے اقبال کہہ کر گئے ہیں کہ۔

ن سمجھو گے تو مت جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں!

تمہاری داستان تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں

اقبال گھوم کر آئے تھے امریکہ میں، افریقہ میں، کئی ملکیساوں میں اور یوروپ کے ملکیدوں میں اور وہاں کے عصری علوم اور وہاں کی دنیوی درسگا ہوں میں گھوم کر آئے تھے کسی نے ان سے انہی مکاتب کے بارے میں پوچھا تھا تو اقبال نے دلوٹک لہجہ میں کہا تھا کہ، ان مکاتب کو ان کی کچی کچی دیواروں میں کام کر لینے دو اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# مدارس اسلامیہ کا وجود اور اس کی برکتیں

الحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نومن به و نتو کل علیہ و نعود  
با لله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له  
ومن یضلله فلا ها دی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك  
له ، ونشهد ان سیدنا وسندنا و مولانا محمد اعلیہ ورسولہ صلی  
الله تبارک وتعالیٰ علیہ وعلی الہ واصحابہ وازواجہ وذریا تھے  
واهل بیتہ واهل طاعتہ وبارک وسلم تسليماً کثیراً کثیراً اما بعد  
فاعود با لله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ  
الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَ  
عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تُبُورَ لِيُوْفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ، ثُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ  
أَصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ

سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ صدق الله العظيم، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضْعُ بِهِ أَخَرِينَ ، صدق رسوله النبی الامی الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاهدین والشاكرین الحمد لله رب العالمین ،

گرامی قدر علماء کرام، بھائیود و ستوا اور بزرگوار میرے عزیز طلباء۔

آپ کے مدرسہ مصباح العلوم کو اللہ تعالیٰ اس اسم باسمی بنائے اور اس مصباح اور چراغ علم کی اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنی تائید غیبی سے حفاظت فرماتا رہے، آمین، آپ حضرات یہ ستائیسوال سال مکمل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، میں شروع پروگرام سے اخیر تک یعنی بچوں کی تلاوت کی تکمیل تک بہت توجہ سے سنتا رہا، اس پروگرام کو سن کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بغیر کسی مبالغہ کے سچی بات کہی جاسکتی ہے کہ مدرسہ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہے استاذتہ کرام کی محنت قابل قدر ہے، ذمہ داران مدرسہ کی فکر قابل ستائش ہے، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو اس کی قدر دانی نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد قلب کے ساتھ ان مدارس میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امین

## یوروپ کی تین سازشیں

میرے بھائیو! اس وقت یوروپ کی طرف سے امت اسلامیہ کے سر پر تین زبرست قسم کی سازشیں لادی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پر آپ بیٹھتے ہو نگے ویب سائٹ آپ بھی کھولتے ہو نگے اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی جہاں تک فراست جانی چاہئے تھی وہاں تک نہیں جا رہی ہے، پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں بالکل صداقت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امت پر تین قسم کے حملے ہو رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ امت کے مقامات مقدسہ کی عظمت کو امت کے دلوں سے ختم کر دیا جائے، ہر میں شریفین، مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں یہ مقامات مقدسہ ہیں، ان کی عظمت اور ان کا احترام دلوں سے نکالنے کے لئے مختلف قسم کی مختیں ہو رہی ہیں، کبھی مسجدوں میں بم بلاسٹ کرو اکر، کبھی مسجدوں میں غیر شعوری طور پر تصویریں گلاؤ اکر، اور معاف کیجئے رمضان میں چینیں پر ہر میں شریفین کی تراوت کو دکھا کر کعبۃ اللہ کی عظمت کو ختم کیا جا رہا ہے، مقامات مقدسہ کا تعلق دھیرے دھیرے ختم کا جا رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ محبوؤں کو ہمیشہ نفرتوں کے نام سے ہی کاٹا جائے کبھی کبھی محبت کو محبت کے نام سے کبھی کاٹا جاتا ہے، یہ بات اور ہے کہ دونوں کی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔

## دوسری سازش

دوسری حملہ جو امت مسلمہ پر یوروپ کی جانب سے تھوپا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے افراد مقدسہ، امت کے رجال کا رامت کے چندہ افراد، جنہیں میں

حدیث پاک سے استدلال کر کے: وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ: کا نام دوں تو بے جانہ ہو گا ان حضرات علماء کرام سے امت کا تعلق دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے الکثر انک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعہ، اور آج کل تو ہر آدمی میڈیا بنا ہوا ہے، ہوٹل والا بھی میڈیا ہے، اس میڈیا نے علماء اور مفکرین کو امت کے رجال کار کو مختلف قسم کی بعد عنوانیوں میں بلا وجہ گرفتار کر کے ان پر بد نماداغ لگا کر امت کا اپنے علماء سے اعتماد ہٹا کر اس امت کو بیتیم بنا دیا ہے، مال کے گھپلوں کا الزام، کبھی بد اخلاقی کا الزام اور مختلف قسم کے الزامات لگا کر اس محنت کو بروئے کار لایا گیا جس کا آغاز ایک زمانہ پہلے ان لوگوں نے کر دیا تھا، کہ امت کی نظروں میں اس کے مکھن اور اس کے مفرکو مجروح کر دیا جائے۔

امت کی نظروں سے ان وارثین انبیاء کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، اس لئے کہ جن کے ہاتھوں میں باگ ڈور ہے جن کی نسبت سے یہ امت ترقی کی راہوں پر چل رہی ہیں، ان ہاتھوں کو ہی زخمی کر دیا جائے تو پھر جناب نبی اکرم ﷺ کی لسان نبوت سے چودہ سو اٹھائیس سال پہلے صادر ہوتا ہے کہ، إِذَا وُصِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب کوئی بھی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو، اس لئے کہ جب نااہل کے پاس کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنادیتے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں باطل ہو اور قیامت نہ آئے، باطل وجود میں آئے گا تو قیامت آئیگی، لیکن جب تک امت کی قیادت اربابِ حق کے ہاتھوں میں رہے گی، جب تک امت کی امامت علماء کے ہاتھوں میں رہے گی، قیامت نہیں قائم ہو گی۔ اس لئے کہ جناب نبی اکرم ﷺ

فرماتے ہیں کہ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ،، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نیک لوگ قائم رہیں۔

لیکن کوتا ہی دونوں طرف سے ہیں، ذمہ داروں نے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھا اور ماتحتوں نے، چھوٹوں نے اپنے ذمہ داروں کو ذمہ دار نہیں سمجھا، ناہلوں کے ہاتھ میں زمام کا رچلا گیا جس کی وجہ سے امت بغیر لگام والے گھوڑے کی طرح چل رہی ہے، یہ امت اتنی سستی اور اتنی سادہ ہو گئی کہ جو شخص اس امت کی لگام کو جب کپڑنا چاہتا ہے کپڑ لیتا ہے اور جدھر کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے اور یہ امت ادھر پلی جاتی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے جناب نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو کتابوں سے نہیں اٹھائے گا بلکہ علم علماء کی شکل میں اٹھایا جائیگا علم کا اٹھنا علماء کا اٹھ جانا ہے۔

اور آج کل تو دیکھو کتنے مطبع وجود میں آرہے ہیں پہلے کوئی کتاب چھپوانی ہوتی تھی تو دلی جانا ہوتا تھا اور وہاں سے کتاب شائع کرواتے تھے، پھر دیوبند میں پریس آئے اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، کتابیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن علم اٹھ جائے گا علماء کرام کی شکل میں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کا برتن اور علم کا ظرف حضرات علماء کرام کے قلوب ہیں، جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا فیضان ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ مغرب کی اس کوشش کو اور یوروپ کی اس یلغار اور اس کی فکر کو ہمیں ناکام بنانا ہے، کہ فلاں دیندار نے یہ کام کیا اور فلاں نے یہ کیا اس طرح اس امت کو اپنے دینی طبقے سے کاٹا جا رہا ہے، امت کی نظر میں علماء کا وقار مجرور کیا جا رہا ہے، اس لئے امت بھی پریشان ہے۔

## تیسری سازش اور اس کا حل

اور شعائرِ اسلامیہ سے کاٹ کر امت کے ذہن اور امت کے دماغ پر ایک زبردست قسم کی یلغار ہے جس کو عربی میں **الْغَزُوُ الْفِكْرِي** کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے دور کیا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں ماڈرن نظام کو داخل کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں جب کہ امت کی ہنی تبدیلی کی چاروں طرف سے کوشش ہو رہی ہو، ایسے موقع پر مدارس اسلامیہ کے جلسے جلوس کرنا، مدارس اسلامیہ کے کارنامے بروئے کار لانا کرامت کے سامنے پیش کرنا امت کے اعتقاد کو بحال کرنے کے مترادف ہے۔

امت کا اعتقاد بحال کرنا بے حد ضروری ہے ایسے موقع پر اجلاس کا قائم کرنا وقت کا اہم ترین استعمال ہے، لوگوں کو دھلانا اور چندہ کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ امت کو یہ باور کرنا مقصود ہے کہ جب تک مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، اور حفاظ عظام کا نظام نیز ناظرہ قرآن کا نظام چلتا رہے گا اس وقت تک یہ امت شعائر اسلامیہ کے ساتھ مقامات مقدسہ کے ساتھ اور افراد اسلامیہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گی اور جب تک امت نے اس تعلق کو مضبوط رکھا ہے اس وقت تک اس امت نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔

## ترقی سائنس پر نہیں، سیرت پر ہے

میرے بھائیو! ہم مسلمانوں کی بہت غلط فکر ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے ان کی اور جدت پسند لوگوں کی یہ فکر ہو گئی ہے کہ امت کی ترقی کے

لنے امت کو پولٹس کے میدان میں آنا چاہیے، امت کو ترقی کے لئے سائنس کے میدان میں آنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے تاریخی حقائق اس فکر کی بالکل تردید کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائنس داں ہو کر دنیا پر حکومت نہیں کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹری کی ڈگری لیکر یا پولٹس کے میدان میں قدم رکھ کر دنیا کی اامت نہیں کی تھی، انہوں نے تو اپنے آپ کو دنیا کی اامت کے قابل بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو تھام کر، انہوں نے تمام مسائل کا حل دریافت کیا اور یہی پیغام ان مدارس اسلامیہ کا مرکزی پیغام ہے، آج کل ہماری فکر غلط ہو رہی ہے اور غلط کروائی جا رہی ہے۔

میں دوڑوک کہتا ہوں چاہے کسی کو برا لگے تو لگے، اور ویسے بھی علماء کرام پر قدامت پسندی کا الزام ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ فکر غلط ہے اور سراسر غلط ہے، کہ مسلمان کو ترقی کرنا چاہے تو سائنس کے میدان میں آئے خدائے پا کے قسم کوئی مسلمان سائنس کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ سیرت کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھا مے گا ایک مسلمان سائنس داں راشٹر پتی بن کر ہندوستان کی حکومت پر بیٹھا لیکن بتائیے اس نے ہندوستان کو کوئی ترقی پر لے گیا، اس نے کوئی ناقابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہمیں اس کی شخصیت سے کوئی انکار نہیں ہے، ہمیں اس کے کمال سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ امت کے بچے یونیورسٹیوں میں جا کر ہی ترقی کر سکتے ہیں یہ غلط ہے، میں پھر دوڑوک کہتا ہوں کہ جب تک اپنی اولاد کو کتاب و سنت سے نہیں جوڑو گے کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھا لو مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔

## ترقی کن چیزوں سے ہوگی؟

ہمیں اگر ترقی کرنی ہے ہمیں اگر کھوئی ہوئی امامت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اگر دنیا پر اپنی امامت کا تصور جمانا ہے، اگر ہمیں دنیا کو ہر اعتبار سے ترقی کی راہوں پر لانا ہے، اور دنیا کو اگر قدر مدت سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے تو پھر امام مالکؓ کا وہ قول جو آپؑ نے بہت پہلے امت کے لئے چھوڑا ہے جس کو حدیث کی کتابوں میں، آثار میں، اور مرفوعی اور منقولی روایتوں میں نقل کیا گیا کہ۔ مَنْ يَصْلُحَ  
الخِرُّ هُذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوْلَهَا، کہ اس امت کی نسل کبھی ترقی نہیں کر سکتی کبھی نیک نامی نہیں حاصل کر سکتی جب تک ان اصول و قواعد، اور ان ضوابط کو نہ تھام لے جن اصولوں اور قواعد کو اس امت کے ابتدائی طبقے نے تھاما ہے، اور امام مالک کا نام آپؑ نے سنا ہوگا امام دارالجہرؓ ان کا لقب ہے سچا پاک عاشق رسول ہے، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا جو وہیں کے رہنے والے تھے لیکن مدینہ کی سر زمین پر کبھی جوتی پہن کر نہیں چلے، اور اتنے عاشق رسول تھے کہ اللہ کے رسول کی محبت کی بنار پر کعبۃ اللہ کے حج کو نہیں جاسکے، کہ میں حج کو جاؤں گا اور وہیں موت آگئی تو میں مدینہ کی سر زمین کے ساتھ پیوند خاک ہونے سے محروم ہو جاؤں گا بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر الہام ہوا، حج کو گئے اور حج ادا کیا وہ بات اور ہے۔

## صحابہ نے تمام علوم قرآن سے سیکھے

صحابہ کرام کو نیو یورسٹی میں پڑھنے گئے تھے؟ کیا انہوں نے انگلش پڑھی تھی؟ ان کے علوم کا تمام تر مرکز قرآن مجید تھا انہوں نے سائنس بھی سیکھا لیکن قرآن

سے لگ کر، انہوں نے قرآن ہی سے سب کچھ سیکھا انہوں نے بایلو جی سیکھی، انہوں نے کیمیو سٹی سیکھی انہوں نے کیمیکل کا علم سیکھا، انہوں نے دنیا کی امامت کا علم سیکھا، علم کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام نے نہ سیکھا ہو، لیکن انہوں نے وہ سب کے سب درس گاہِ محمدی ﷺ سے ہی حاصل کیا اور پھر وہ اسی پیغام کو لیکر پوری دنیا میں پھیل گئے، ان علوم کو پوری دنیا میں پھیلایا۔

## قرآن ہی کافی ہے

جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم ﷺ سے تورات کو صرف مطالعہ کے طور پر پڑھنے کی اجازت طلب کی تھی، کہ اللہ کے رسول ﷺ تورات بھی آسمانی کتاب ہے چاہے اس میں تحریف ہو گئی ہو، آپ تو ہمیں اصل حقیقت بتلانے والے ہیں ہی، تو کیا ہم تورات کو پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہ عمر اجازت مانگ رہے ہیں جن کی ثقاہت پر جناب نبی اکرم ﷺ کو تنا اعتماد تھا کہ خود فرمایا نبی اکرم ﷺ نے کہ عمر قیامت آسکتی ہے لیکن شیطان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس گلی سے گزرے جس گلی سے تم گزر رہے ہو، اتنا اعتماد ہونے کے بعد آپ ﷺ سے جب انہوں نے تورات پڑھنے کی اجازت مانگی تو رخ انور غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔

فرمایا، حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، عمر تیرے ہاتھ میں اتنی مقدس کتاب قرآن ہے اس کو چھوڑ کر تورات کی طرف ذہن کیسے جاتا ہے؟ خبردار قرآن پاک ہی تمہارے لئے کافی ہے، تمام علوم کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، وہ کون سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ

نے قرآن پاک میں ذکر نہ کیا ہو، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا ہی آب دار موئی قرآن میں سے نکالے گا، اب اگر کسی کے چشمے کے نمبر بدل گئے ہو، اور اس کو وہ علوم قرآن پاک میں نظر نہ آتے ہوں تو غلطی قرآن کی نہیں ہے بلکہ خود کے نظر کی ہے، آپ کے گلاس کے نمبر غلط ہیں آپ کو چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی نظر آ رہی ہے۔

## قرآن میں حق بات کیسے نظر آئے؟

میرے بھائیو! اگر ہمیں قرآن پاک سے حق بات کو ڈھونڈھنا ہے تو ہمیں اپنی نظر کو صحیح کرنا پڑے گا ہماری نظروں میں نور الٰہی کا چشمہ ہونا چاہیے، اور وہ چشمہ کونسا ہے؟ اس کو حدیث بیان کرتی ہے کہ، **إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ**، کہ مؤمن نے تو اللہ تعالیٰ کے نور کے چشمے لگائے ہوئے ہیں، بہت سی چشمیں کی دوکان پر لکھا ہوا ہوتا ہے، نور آپٹیکلس، تو وہ نور الگ ہے یہاں نور سے مراد لکھی رہی اور دل کا دیکھنا ہے، اور یہ نور کب آئیگا؟ جب کہ اس کا چشمہ صحیح لگے گا، آپ کہو گے کہ اس چشمے کی دوکان کہاں ہو گی مکہ میں، مدینہ میں، فلسطین میں، یا بسمیل میں یادی میں ہو تو پتہ دیدو، ہم لینے کے لئے چلے جائیں گے، نہیں، اس کا پتہ بھی قرآن میں ہے، اور اتنا پتہ پتہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر غلطی نہیں ہو سکتی اور کوئی اس کو بدلنا چاہے تو بھی اس کو نہیں بدل سکتا۔ اور وہ پتہ ہے سورہ نور میں، سورہ نور میں اس چشمہ کی دوکان ہے، حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا تذکرہ نگاہوں کی حفاظت کے درمیان میں فرمایا ادھر نگاہ کا حفاظت کا مضمون ہے

اور،،اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،، کے بعد بھی نگاہ کی حفاظت کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ہے،،اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پتہ چلا کہ جس کو اپنی آنکھوں میں نور الہی کا اکسیر کیمیا پہننا ہوتا وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ ان شاء اللہ اس کو نور الہی نصیب ہو جائے گا۔ نظروں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے۔

آج کل اس مرض میں بوڑھے بچے جوان سب لوگ بتلاء ہیں۔ جب ۲۰۰۲ء میں گجرات فسادات ہوئے تھے اس وقت ایک اللہ والے نے مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز کے بعد فرمایا تھا رات میرے قلب پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات الہام فرمائی کہ گجرات کے مسلمانوں میں دخترناک قسم کی بیماریاں ہیں جب تک گجرات کے مسلمان ان دو بیماریوں کو دور نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی مد نہیں آسکتی، ایک نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اور دوسرا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، آج کل یہ بیماری چھوٹے بڑے عوام خواص سب میں عام ہے، زنا عام ہو چکا ہے زنا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مرد عورت کے ساتھ ملوث ہو جائے، بلکہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے، بلکہ دماغ بھی زنا کرتا ہے، غلط فکریں غلط سوچ یہ دماغ کا زنا ہے، کسی پرانی عورت کے بارے میں سوچنا یہ بھی دماغ کا زنا ہے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے عام دعوت زنا کی دی جا رہی ہے۔

وہ عورت جس کے لقدس کو اور جس کی شخصیت کو اسلام نے کتنا پروان چڑھایا تھا، عورت کو کتنا قیمتی مگینہ بنایا تھا عورت کو کتنا قیمتی ہیرا بنایا تھا، اس کو اتنا محفوظ

رکھا کہ اس کا نام سب کے سامنے لینا بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، پورے قرآن میں حضرت مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے اور حضرت مریم کا نام بھی اس لئے لیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اشارہ کیا کہ مریم ہمارے نزدیک مقدس عورت ہے ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنانہیں ہے، اس لئے ان کی جگہ والدہ کا نام لیا گیا اور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے آپ کو قرآن نے یاد کیا، بلکہ عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار دو عالم ﷺ کے دل کا تکڑا ہے لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی مسلمان ہیں اسلام کی راہوں میں سب سے بڑی قربانی دینے والی ام المؤمنین ہے، بلکہ یوں کہیئے کہ اسلام کی راہوں میں پھولوں کی چادر بچھانے والی اور حضور اکرم ﷺ کے دل کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے تسلی دینے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن قرآن پاک نے حضرت خدیجہؓ کا نام نہیں لیا اور سورہ یوسف جس کا پورا نشانہ یوسف اور ذلیخہؓ کا قصہ ہے، لیکن پورے قرآن میں ذلیخہؓ کا نام کہیں نہیں آیا۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کو اسلام نے اتنا اوپنجا بنایا تھا اس کو دنیا نے اتنا ستا کر دیا کہ پانچ روپیہ کا برش بیچنے کے لئے عورت کو رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایک صابون جس کی قیمت آٹھ دس روپیہ سے زیادہ نہیں ہوتی اس کے ایڈ و ٹائس کے لئے عورت کے بال کو اور اس کی کھال کو اور اسکی بُنی کو فروخت کر دیا گیا اس کو اتنا ستا بنادیا گیا اگر اسی کا نام آزادی ہے تو مغرب کو

اپنی عورتوں کی خیر منانی چاہئے اور وہ منار ہا ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نگاہ، اور شرمگاہ کی حفاظت اس وقت ایک فریضہ ہے ہم روڈ پر نگاہ کا استعمال غلط کرتے ہیں ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر بھی نگاہ کا استعمال غلط کرتے ہیں، سن لو بحیثیت مفتی کے فتوی دے رہا ہوں کہ جس طرح روڈ پر کسی اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے اسی طرح ٹیلی ویزن پر بھی کسی اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ، **قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ** کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور قرآن پاک نے نگاہوں کی حفاظت کا فائدہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت سے شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے کہ فرمایا، **ذَالِكَ أَرْكَنِ الْهُمْ**، نگاہوں کی حفاظت لوگوں کے لئے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور تزکیہ ہم سب لوگوں کا فریضہ ہے، اور فرمایا **قُدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا** جس نے اس فرض کو ادا کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے حقیقت کو اپنا وہ کامیاب ہوا، اور ہر چیز میں اصل حقیقت ہوا کرتی ہے۔

## اسلام حقيقة سے بحث کرتا ہے

قرآن پاک کی زبان میں اندها آنکھ کے اندر ہے کوئی نہیں کہتے ہیں، اسلام حقيقة سے بحث کرتا ہے، اسلام کو شکل و صورت سے اور خارجی چیزوں سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں ہے اور اسی کو مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جناب نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا گیا کہ، **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْنُظُرُ إِلَى صُورٍ كُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامٍ كُمْ وَلِكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبٍ كُمْ**، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل

وصورت کو نہیں دیکھتا ہے وہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اندر کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور اندر کی حقیقت کو فرست کہا گیا ہے مون کی نظر حقیقت تک جاتی ہے، اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، قرآن انداھا اس کو نہیں کہتا جس کو آنکھ نہ ہو قرآن کہتا ہے کہ، **فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ**، کہ زگا ہیں انہی نہیں ہوتی، دل انہے ہوتے ہیں پتہ چلا کہ اگر خدا تعالیٰ کسی سے آنکھوں کی روشنی چھین لے، لیکن اس کا قلب زندہ ہے اس کے قلب کا ادراک زندہ ہے اس کے قلب کا شعور زندہ ہے۔

تو ایسا آدمی خدا تعالیٰ کی نظر میں دن میں ستارا دیکھنے والے سے بھی زیادہ قبل قدر ہوتا ہے، اگر آنکھ کی روشنی زیادہ قیمتی ہوتی تو حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آنکھ کی روشنی نہ چھینی جاتی، اگر آنکھ کی روشنی زیادہ قیمتی ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آنکھ کی روشنی نہ چھینی جاتی، اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں با قاعدہ موازنہ قائم کیا ہے کہ آنکھ کو کان پر فضیلت ہے یا کان کو آنکھ پر فضیلت ہے، علماء اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نبی کو بہرہ کبھی نہیں بنایا گیا ہاں نبیوں کے آنکھ کی روشنی سلب کر لی گئی، پتہ چلا کہ کان افضل ہیں آنکھ کی بنسخت۔

## علم نام ہے معرفت الہی کا

بہر حال علم نام ہے اللہ تعالیٰ کو پیچانے کا، علم رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم سند لینے کا نام نہیں ہے، علم کوئی مخصوص نصاب کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ

نصاب کی تکمیل یہ سند وغیرہ وغیرہ یہ سب علم کے ذریعہ ہیں، یہ سب سبب ہیں اس لئے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔

علم کی تعریف امام رازیؒ نے فرمائی کہ علم اس حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ کائنات کے حلقہ انسان کے اوپر مکشف ہو جائیں اس لئے کہ جب معرفت ہوتی ہے جب جان پہچان ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد خشیت پیدا ہوتی ہے، ٹرا فک پوس والے سے وہی ڈرے گا جس نے اس کو پہچانا ہو، اور اگر کسی نے اس کو پہچانا ہی نہیں اس کی حقیقت ہی کسی پر نہیں کھلی، تو کوئی بھی سُنَّل توڑ دے گا اور وہ تمام قانون توڑ ڈالے گا جس کی وجہ سے وہ قانون کی زد میں آسکتا ہو، اس لئے کہ اس نے پوس والے کو پہچانا ہی نہیں، اس کے سامنے حقیقت نہیں کھلی اس کے سامنے معرفت نہیں آئی، اور جب کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔

تو انسان نہ اس کے مضرات سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے فائدوں سے نفع حاصل کر سکتا ہے، قرآن پاک نے علماء کی جو فضیلت بیان کی ہے، **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**، کے اندر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء کے اندر خشیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اگر کسی کو یہ دو چیزیں میسر ہوں، یعنی اس کو خوف خدا اور معرفت الہی حاصل ہو جائے تو چاہے وہ کسی مدرسہ کا فاضل نہ ہو، چاہے کسی ادارہ کا فارغ نہ ہو، لیکن قرآن اس کو عالم کہتا ہے قرآن صرف اس کو ہی عالم نہیں کہتا جو دس سال کسی مدرسہ میں پڑھا ہوا اور اس کو سند ملی ہو۔

## واقعہ

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، قطب الاقطاب سرمایہ ملت، سرخیل علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اور ججۃ الاسلام، فخر المتكلمين بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو توئیؒ اور مجدد ملت حکیم الامت مصلح اسلام و مسلمین سیدنا و مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں علماء امت کا سرمایہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ڈوہتی نیا کو سنبھالا، ان کی عظمتوں اور ان کے تقدس کو لاکھوں سلام، چاہے کوئی بھی ان کو کتنا ہی کچھ کہے لیکن ان کو کچھ کہنا چاہند پر کچھ را چھالنے کے مانند ہے کہ جس سے سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، دشمنانِ اسلام ان کے تقدس و مرتبہ میں نہ کوئی فرق لاسکے ہیں اور نہ انشاء اللہ قیامت تک لا سکیں گے، ہم ان کی محبت کو رمزِ اسلام سمجھتے ہیں ہم ان کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، تو ان تینوں علماء نے اپنا اصلاحی تعلق، بیعت اور ارشاد کا تعلق حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے قائم فرمایا، اور انہوں نے بیعت بھی اپنے حقیقی معنی میں کی، بہر حال کسی سوال کرنے والے نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کر لیا کہ آپ لوگ تینوں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی حکیم الامت ہے، کوئی ججۃ الاسلام ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، اور آپ نے اپنا اصلاحی تعلق جوڑا حضرت حاجی امداد اللہ سے، جبکہ حاجی صاحب مولوی بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، کافیہ عربی سوم تک پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان سے بیعت

کری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ثقیتی جواب دیا وہ جواب میں اپنے آپ کو اور تمام حاضرین کو سنا ناچا ہتا ہوں۔

اللہ کرے کہ اس جواب سے ہمیں عبرت مل جائے فرمایا کہ دیکھو بھائی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جس نے مٹھائیوں کی دوکان پر جو مٹھائیاں فروخت ہوتی ہیں ان کا اس نے صرف نام سنایا ہے، اور وہ نام یاد رکھنے میں بہت ماہر ہے، لیکن اس نے ذائقہ نہیں چکھا، لیکن ایک وہ آدمی ہے جس کو نام بالکل یاد نہیں ہے وہ جاہل ہے، ان پر ٹھہر ہے اس کو مٹھائی کا نام پڑھتے بھی نہیں آتا اور نہ ہی سمجھ میں آتا ہے لیکن اس نے تمام قسم کے مٹھائیوں اور حلسوں کے مزے چکھے ہوئے ہیں، اب آپ خود کہیں گے کہ دونوں میں کام کا آدمی کون ہے؟ جس نے صرف نام یاد کئے وہ ہے؟ یا وہ جس نے نام نہ یاد کر کے حقیقت کو اختیار کیا اور مٹھائی کھا کر دیکھا، ذائقہ چکھ کر دیکھا، جس نے مزے چکھے وہ کام کا آدمی ہے، بھلے نام نہ جانتا ہو، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہماری مثال پہلے شخص کی مانند ہے کہ جس نے کتابوں کا علم دیکھا ہے پڑھا ہے لیکن ہم نے مزانہیں چکھا تھا حاجی صاحب نے اگر چہ دیکھا نہیں ہے پڑھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، لیکن چکھا ضرور ہے، اس لئے ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں، اور اس لئے ہم حاجی صاحب کے پاس گئے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ کونسے حلسوے کا مزا کیسا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا علماء صرف ان کو نہیں کہتے ہیں جنہوں نے سند لی ہو، اگر آپ کو خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کی پہچان آگئی تو آپ حضرات بھی علماء بن سکتے ہیں، اور آپ میں خدا تعالیٰ تک رسائی

آگئی تو آپ عالم ہو گئے اس لئے کہ علم کا مقصد وہی ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مدرسہ کا سند یافتہ ہے، اس نے بڑے بڑے مدارس میں پڑھا، لیکن اس کو تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں آئی، تو پھر قرآن کی زبان میں ایسا آدمی عالم نہیں بلکہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر علم کے ساتھ عمل ہے اور حیثیت ہے تو اس کی قسمت کا ستاراً ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔

## تواضع کی شکل میں تکبر

آج کل توبیعت بھی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، میں ایک جگہ گیاتھا وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ان سے بیس چھپیں لوگوں نے بیعت کی، ابھی بیعت کو دس پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ چونکہ بڑے مولانا کے ساتھ آئے ہیں اس لئے ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ کیا لکھیں قادری لکھیں چشتی لکھیں سہروردی لکھیں یا مجددی لکھیں؟ میں نے کہا کہ اچھا آپ یہ سب لکھوانے کے لئے ہی بیعت ہوئے ہیں؟ حالانکہ بیعت نفس کو مٹانے کے لئے ہوتی ہے، اور نفس کشی بیعت کا مقصد ہے، اور ہم لوگوں میں کہتے بھی پھرتے ہیں کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، میرے اساتذہ میں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آج کل تواضع کی شکل میں بھی تکبر ہے، آدمی اپنے آپ کو ناچیز کہتا ہے، اور سمجھتا سب کچھ ہے، کہتا ہے کہ ہم کیا ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور باہر کوئی اس کو نام سے بلا تا ہے تو غصہ میں آ جاتا ہے کہ مجھے نام سے بلا تا ہے؟ میں تو صدر ہوں میں فلاں ہوں اور غصہ بھی

کرتے ہیں تو ناچیز کیوں کہا تھا؟ اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے اور اگر کسی نے کچھ بھول بتائی تو کہتا ہے کہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی خدمت میں ہی تو بھول ہوتی ہے اور آپ غصہ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ہے تکبر بشکل تواضع، اور حضرت مولا نا اس کے ساتھ بڑی عجیب بات فرماتے تھے میں نے تو اس کو اپنے دل پر سنہرے حروف سے لکھا کہ تواضع انسان کے لئے صفتِ کمال ہے، اور اس صفت کمال کا اظہار کرنا گویا تکبر کرنا ہے، متواضع کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ میں متواضع والا ہوں، متواضع تو اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، صرف اتنا کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا تواضع کی شکل کر کے بتاؤ۔

## باقع میں علماء دیوبند

درمیان میں ایک بات اور سن لیں، عشق نبی کا دم بھرنے والے ایک بات سن لیں، عشق ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عشق نبی کے نام پر فتنہ کرنا، اسی عشق رسول کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے کچھ اکابر کو جوار رسول میں جگہ نصیب فرمائی، یہ کھلا ثبوت ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جنتِ باقیع میں جائیے، اور تاریخ کے کسی واقف کا رسے پوچھئے، تو وہاں الحمد للہ کتنے علماء دیوبند مدفون ہیں، میں خود مدینہ منورہ میں چار سال پڑھا ہوں، تو مدینہ منورہ کے تاریخ کے جاننے والے جو حضرات تھے، انہی میں سے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جن کا تعلق ہے، ہمارے استاذ تھے تو وہ ہمیں جمعرات اور جمعہ کو (دودن کی وہاں چھٹی

رہتی ہے) کو جنتِ ابیقیع کی تاریخی معلومات دینے لے جاتے تھے کہ اتنا تو سب  
جانتے ہیں کہ جنتِ ابیقیع میں دس ہزار سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں لیکن وہ ہمیں  
 بتلاتے تھے کہ جلیل القدر صحابہ میں سے یہ فلاں کی قبر یہ فلاں کی قبر ہے، تو انہوں نے  
 بہت سارے علماء دیوبند کی بھی نشاندہی کی، علماء عرب کو بھی اس کا اعتراف ہے، تو  
 الحمد للہ علماء دیوبند کو عشقِ نبی کا نتیجہ ملتا ہے۔

## انقلابِ مدارس سے ہی آسکتا ہے

بہر حال، اسلامِ حقیقت سے بحث کرتا ہے، یہ مدارس آپ کو چٹائیوں کی  
شکل میں نظر آ رہے ہو، ٹوٹی عمارتوں کی شکل میں نظر آ رہے ہو، لیکن یہ مدارس صبح سے  
لیکر شام تک حقیقت سے بحث کرتے ہیں، مسلمانوں میں اس حقیقت کو پلانے کی  
کوشش کی جا رہی ہے، اور یاد رکھو، یورپ والوں نے جتنا ان مدارس کی حقیقت کو سمجھا  
ہے اتنا مسلمانوں نے بھی نہیں سمجھا۔ یورپ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر انقلاب  
آسکتا ہے تو ان مدارس اور مکاتب سے ہی آسکتا ہے، اس لئے کہ حضور ﷺ جب  
تک مکہ میں تھے اتنا انقلاب نہیں آیا لیکن جب مدینہ میں صفحہ پر بیٹھ کر ایک مدرسہ قائم  
ہوا تو پوری دنیا میں انقلاب ہو گیا، اور اسی مدرسہ سے دنیا کو قائد بھی ملے، مبلغ بھی  
ملے، رہبر بھی ملے، اساطین علم و فضل بھی ملے، حکومت چلانے والے بھی ملے، الغرض  
دنیا والوں کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑی صفحہ کے مدرسہ نے امت کو وہ رجال کا رعطا  
فرمائے، آپ ان مدارس کو معمولی مت سمجھئے۔

میرے بھائیو! جب تک یہ مدارس ہیں ہندوستان میں اسلام محفوظ ہے، اور جس دن

ان مدارس کا جال کمزور پڑ گیا تو ہندوستان میں دوبارہ اپسین کی تاریخ لوٹ کر آسکتی ہے، ہندوستان سے زیادہ علم اپسین میں تھا، غرناطہ اور قرطبه میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوتے تھے، لیکن یورپ نے وہاں کے مدارس پر جال ڈالا، مدارس کو تھس کر دیا آج اندرس کے منارے اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے لئے ترس رہے ہیں۔

## گجراتی مسلمان قابل مبارک باد ہیں

لیکن الحمد للہ گجراتی مسلمانوں! اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص و استقامت کو قبول فرمائے گجراتی مسلمانوں! تمہیں مبارک ہو، اور تمہاری آنے والی نسل میں بھی یہ چیزیں سراحت کرے کہ الحمد للہ ثم الحمد للہ گجرات کا مسلمان جس ملک میں بھی گیا ہے وہ اپنے ساتھ مدرسہ کی سنت کو لیکر گیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ سالہ کامیاب مہتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ گجرات کا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتا ہے تو دو چیزیں اپنے ساتھ لیکر جاتا ہے ایک کڑی کچھڑی اور ایک مدرسہ، تو گجراتی مسلمان جہاں بھی گیا اس نے علماء دیوبند کے طریقے پر اپنے مدرسہ کی بنیاد ڈالی جس کی وجہ سے آج انگلینڈ افریقہ، امریکہ اور کینیڈا اور بڑے بڑے ممالک میں مدارس مکاتب، ڈاڑھیاں، اور سنت کا لباس موجود ہے ہندوستانی مسلمانوں کو شرم آنی چاہیئے کہ وہ ڈاڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر وہاں کے انٹلی جنس کے اندر نوجوانوں کو ڈاڑھی رکھتے ہوئے اور سنت کے مطابق لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم

ملازمت چھوڑ سکتے ہیں لیکن سرکار دو عالم ﷺ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کی برکت سے ایسی روحانیت پھیلائی۔ آپ انگلینڈ میں رہنے والوں سے پوچھ لیجئے، کہ کریمؐ اپنے اپنے گرجا گھروں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے ان گرجا گھروں میں نعرہ توحید اور مستانہ توحید بلند کرنے کے لئے مساجد کی بنیاد ڈال دی، یہ مدارس کی دین ہے تبلیغ مدارس کی دین ہے، خانقاہیں مدارس کی دین ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نے جنم دیا ان مدارس نے ہی جنم دیا، حضرت تھانوی کے اندر ترکیہ کی فلکر کس نے ڈالی، وہی دارالعلوم دیوبند کی چٹائی نے ڈالی، ان مدارس سے امت کو ہی مستغفی نہیں ہو سکتی، اس لئے ان مدارس سے تعلق مضبوط رکھو۔

## نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے

بلکہ میں ایک جملہ کہدوں جو پورے بیان کا خلاصہ ہو سکتا ہے کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں! اگر تم ہندوستان میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہو، اور اس صفحہ ہستی پر اپنا نام ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ان مدارس کو باقی رکھنا ہو گا اور ان مدارس کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہو گا، مدرسہ کسی ایک جگہ قائم ہوتا ہے لیکن اس کے فیوض و برکات پورے علاقہ میں پھیل جاتے ہیں اگر یہ مدارس مٹ گئے یا کمزور ہو گئے تو تم بھی مٹ جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے اقبال کہہ کر گئے ہیں کہ۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

اقبال گھوم کر آئے تھے، کسی نے ان سے انہی مکاتب کے بارے میں پوچھا تھا تو اقبال نے دٹوک لہجہ میں کہا تھا کہ، ان مکاتب کو ان کی کچی کچی دیواروں میں کام کر لینے دو، اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائیگا، کیا ہم دنیا میں عزت کے ساتھ جینا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اپنے اسلاف کی میراث کو توڑ دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے نام و نشان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اگر عزت کی زندگی بسر کرنی ہے تو آؤ۔

و اپی کے مسلمانوں آؤ! اور ارادہ کرو پختہ نیت کرو کہ ہم مدرسہ مصباح العلوم میں ہر قسم کی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو لگائیں گے، اور اپنے بچوں کو ان مدرسون میں رکھیں گے تاکہ یہی بچے مستقبل میں دنیا کی امامت کے حامل ہو سکیں، میں بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے کا مخالف نہیں ہوں، الفاظ کی غلطی ہو رہی ہے تعبیر غلط ہو رہی ہے، اسلام کو سیاسی مت بناؤ، بلکہ سیاست کو اسلام بناؤ، اسی طرح اسلام کو کالج نہ بناؤ، بلکہ کالج کو اسلام بناؤ، ڈاکٹر بھی اور دیندار بھی انجینئر بھی ہو، اور دیندار بھی ہو، بہر حال ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم آرستہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں اسلام کی محبت وعظت پیدا فرمائے امین۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبَاءِ جَمِيعِنَ

وَآخِرَ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## افتباں

جب بھی کوئی مسئلہ آئے ہم نماز کے ذریعہ اللہ سے  
مانگنے والے ہیں، ماں بہنوں کو بھی کی تلقین کریں اولاد کو آنکھوں  
کی ٹھنڈک بنانا ہے دور کعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو  
، رَبَّنَا هبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا<sup>۱</sup>  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ، قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے  
وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لئے یہ دعا کرتے ہیں، اس کثری  
کے مسلمانوں کے لئے اس دعا کا یاد ہونا بید ضروری ہے، جس کا  
ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی  
ٹھنڈک بنا، اللہ تعالیٰ کتنا ارحم الراحمین ہے کہ درخواست کیسے  
لکھنا ہے اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، کہ تم کیسا بھی لکھو  
گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا کہ ان کو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

## دنیا میں مصیبتیں اور ان کا علاج

الحمدہ ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتو کل علیه ونعود  
 بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مصل  
 له ومن یضلله فلا ها دی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده  
 لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسوله،  
 صلی اللہ تبارک وتعالی علیه وعلى الہ واصحابہ وازواجہ  
 وذریاتہ واهل بیتہ واهل طاعتہ وبارک وسلم تسليما کثیرا  
 کثیرا اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن  
 الرحيم ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
 الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم ، وعن النبي ﷺ انه قال مَا أُعْطَى  
 أَحَدٌ عَطَآءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ صدق رسوله النبي الامی  
 الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاهدین والشاکرین والحمد  
 لله رب العالمین .

# علاج کے لئے دو چیزیں ضروری

محترم بھائیو بزرگ اور دوستو۔

اسلام نام ہے کچھ چیزوں کے کرنے کا اور کچھ چیزوں سے بچنے کا، یعنی اسلام میں کچھ چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اسی مجموعہ کی طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں اشارہ کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام طاقتوں کا انکار کرنا، اور اللہ کی واحد طاقت کو اختیار کرنا، دنیا کے علاج کے کسی بھی جگہ آپ جائیے کمال انہی دو چیزوں سے پیدا ہو گا، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو ڈاکٹر پہلے دوائیں لکھے گا کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں لکھتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، ایک آدمی پانچ سو پاور کی دو گولیاں کھالے اور پرہیز نہ کرے فالودہ کھائے ٹھنڈا پانی پیتا رہے تو ایسی کتنی ہی گولیاں وہ کھائے، اس کا نفع نہیں ہوتا ہے۔

بہر حال آدمی کو علاج میں کامیابی تجویز ہوتی ہے جب کہ کچھ چیزوں کو لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے، بلکہ اگر یوں کھا جائے تو بجانہ ہو گا کہ دمی دوانہ لے لیکن پرہیز کرے تو بیماری خود بخود دور ہو جائیگی، ہم لوگ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے تو وہاں ڈائنسگ ٹیبل کے آس پاس الگ الگ نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک نصیحت یہ لکھی ہوئی ہے کہ، **الْحَمِيَّةُ رَأْسُ كُلٌّ دَوَآءِ**، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج ہے، آج کل ایسی بیماریاں وجود میں آئی ہے کہ پرہیز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پرہیز کے ذریعہ علاج کے طریقہ کو اسلام نے بھی مانا ہے اور

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہی دونوں طریقے دیئے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ روحانی بیمار ہیں آخرت کے بیمار ہیں جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے یہ ان کی دوا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا یہ ان کا پرہیز ہے۔

## آزمائشیں اور ان پر صبر

میں نے جو آیت پاک پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ،، اے ایمان والو! تمہاری زندگی میں مختلف مصیبتوں آئیگی، اور ان مصیبتوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے کر دیا ہے، کہ ہم ان ان طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ امتحان ہال میں آنے سے پہلے ہی اس نے پیپر کھول دیا کہ اس طرح تمہیں آزمایا جائیگا، اور اس طرح کے سوالات تمہارے سامنے آئیں گے اس کے باوجود کوئی آدمی اگر فیل ہو جائے تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، وَكَنْبُلُونَكُمْ بِشَىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ،، ہم تمہیں کبھی کبھی ڈرا کر آزمائیں گے کچھ لوگوں کا خوف تمہارے دل میں پیدا کریں گے، اور ایسے موقعہ پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اے انسان تیرے دل میں دوسروں کا ڈر داخل ہوا ہے تو اب تو دوسروں سے زیادہ ڈرتا ہے یا مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے، تیرے دل و دماغ میں سپر پا اور کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے۔ اور دوسرا امتحان اس دنیا میں ہم یہ لیں گے تجھے بھوکار کھیں گے، رمضان شریف کا مہینہ

ایک قسم کی آزمائش ہے آدمی کے پاس اس کا خود کا کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آزار ہے ہیں۔

اور تیسری آزمائش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، مالی جانداد میں نقصان ہوگا، کبھی نفع زیادہ ہوگا اور کبھی کم ہوگا، بارش کبھی زیادہ ہوگی اور کبھی کم ہوگی اور ہم اس وقت دیکھنا چاہیں گے کہ تو کیا کہتا ہے تو اس وقت جو کہے گا ہم اسے محفوظ کریں گے اگر تو کہتا ہے،، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ،، کہ گزشتہ سال میرے اللہ نے چاہا تھا کہ نفع زیادہ ہو تو زیادہ ہوا، اور اس سال میرے اللہ نے ہی چاہا کہ نفع کم ہو تو کم ہوا، اور اگر تو یہ کہے گا کہ میں نے اس سال فلاں چیز کھیت میں نہیں ڈالی تھی اس لئے مجھے مال کم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے دنیا کی چیزوں کو اپنا خدامان رکھا تھا۔

اور کبھی ہم آزمائیں گے تیری پیاری اولاد میں سے کسی ایک کو موت دے کر، تیری بیوی کو موت دے کر ہم تجھے آزمائیں گے، اور تیرے قربی رشتہ اروں میں سے کسی کو موت دیکر ہم تجھے آزمائیں گے اور ہم اس وقت یہ دیکھیں گے کہ تیری زبان سے کیا نکلتا ہے اگر تیری زبان سے یہ نکلا کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ میں بھی اللہ کا ہوں اور میری اولاد بھی اللہ کی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانداد ہے وہ اپنی جانداد میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اگر بنده اس طرح کے کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک جملہ کے بدلہ ابرا اور مقریبین کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پھلوں میں کمی کر کے بھی آزماتے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کے پچھے کی روح قبض کر لیتا ہے اور فرشتے آسمان پر روح لیکر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس کی روح قبض کرتے وقت کیا کہا تھا؟ اس لئے کہ اے فرشتوں تم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے بلکہ بہت بڑا کام کیا ہے اس کے جگر گوشہ کی روح قبض کی ہے، جس کے پیچھے اس نے بڑی مصیبتیں کی تھی، وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا اور اس کے ساتھ اس نے تمنائیں وابستہ کی تھی، تم نے جب اس کی روح کو قبض کیا تو اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نے کہا تھا کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے اس نے چاہا تو لے لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے میرے اس بندے کے لئے جنت کو واجب کر دیا، یہ فضیلت ہے صبر پر، اور جب بندہ اس طرح کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے فرماتا ہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میری طرف سے خوشخبری دیدو۔

## دنیا میں مصیبتوں کیوں؟

یہ دنیا ہے یہاں تو مصیبت آنی ہے بغیر مصیبت کے دنیا، دنیا نہیں ہے، جو آدمی کا نٹوں پر سویا ہو، اسی کو گدوں پر سونے میں مزا آتا ہے، امیری کی قدر وہی کرتا ہے جس نے غربی دیکھی ہو، اور جس نے کبھی غربی کا منہ نہ دیکھا ہو وہ تو مزے سے

مال اڑاتا ہے اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بھی حالات اس لئے آتے ہیں کہ دنیا کے حالات کے بعد جب جنت میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ واقعی کوئی راحت کی جگہ ہے واقعہ ہم کسی راحت اور سکون کی جگہ آئے ہیں سکون کا مزا تکلیف کے بعد ہی ہوتا ہے جو ایسی (AC) روم میں نہ ہو، اس کو تھوڑی دیر ایسی (AC) میں لا تو اس کو AC کی لذت کا احساس ہو گا اور جو دن بھر سے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا احساس ہو گا۔

## واقعہ

ایک مرتبہ ایک صاحب بیمی کی ایک ہوٹل میں گئے انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ آپ کی ہوٹل میں کتنی کتنی کمپیگری کے روم ہیں تو اس ہوٹل والے نے بیان کرنا شروع کیا کہ ڈھائی سو والا، تین سو والا، پانچ سو والا، انہوں نے کہا کہ دھائی سو سے بھی کم والا کوئی کمرہ ہے؟ اس نے کہا، ڈھائی سو والا بھی ہے لیکن اس میں مچھر ہیں اور اس میں پسونوں غیرہ ہیں اس نے کہا کہ مجھے وہی کمرہ دیدو اس نے نام پوچھنا نام بتانے پر اس نے تعجب کی آنکھ سے اسے دیکھا اور کہا کہ آج سے چار مہینہ قبل اسی سر نیم کا ایک آدمی ہمارے یہاں آیا تھا اور وہ تو کہہ رہا تھا کہ جتنا مہنگا کمرہ ہو، وہ بتلا وہ تو کیا وہ آدمی جو چار مہینہ قبل آیا تھا اور وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا کہ ہاں وہ میرا بیٹا ہے اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ فائی اسٹار روم چاپیے اور جب وہ روم یہاں نہیں ملا تو وہ کسی دوسرا ہوٹل میں چلا گیا اور تم سور و پیہ والا کمرہ لے رہے ہو، اس نے کہا کہ برابر ہے وہ سیٹھ کی اولاد ہے اور میں فقیر کی

اولاد ہوں، یعنی کہ میرا بابا پ تو غریب تھا میں اس کا بیٹا ہوں اور میں مالدار بناؤ تو میرا بیٹا امیر کی اولاد ہوا، آج کل ہماری اولاد کا یہ ماحول ہے بابا پ محنت سے کماتا ہے اور بیٹا مزے لے کر اڑاتا ہے اور بابا پ کی پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔

## مصیبت کے وقت کیا کریں؟

دنیا میں مصیبتوں تو آتی ہیں اسلام نے مصیبتوں کے آنے پر دو چیزوں سے مدد لینے کا ذکر فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت تم دو چیزوں کو اختیار کرنا۔ نمبر ایک نماز کی پابندی کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ تم اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف کام کرتے رہنا۔ اور اسی کا نام صبر ہے، عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بند رکھنا مطلب یہ ہو گا کہ اپنے دل و دماغ کو اپنی چاہتوں کو بند کر دینا، نفس جو چاہتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، سردی کے موسم میں فجر کی نماز کو جاتے ہوئے ٹھنڈی لگتی ہے نفس کہتا ہے کہ سوئے رہو، لیکن آپ نے نفس کو قید کر دیا، اور آپ مسجد کی طرف آگئے، یہ بھی صبر ہے، صبر کا مفہوم وسیع ہے، صرف کسی کی ماردھاڑ پر صبر نہیں ہوتا ہے، صرف مصیبت پر ہی صبر نہیں ہوتا بلکہ صبر ہر نیک کام پر جمر ہنے کو کہتے ہیں۔

## مصیبت کیسے دور کریں؟

دور کعت کی ایک نماز آدمی کی تقدیر میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ دل سے ہو، اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایسی نماز پڑھو جو انقلاب پیدا کرے، صاحب جلالین نے ایک روایت

نقل فرمائی ہے کہ إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب بھی حضور اکرم ﷺ کو کوئی امر درپیش ہوتا تو آپ ﷺ نماز کی طرف پیکتے تھے اگر سورج گر ہن ہو گیا چاند گر ہن ہو گیا یا کوئی بھی کام پیش آیا تو آپ ﷺ کا سب سے پہلا عمل دور کعت نماز ہوتا تھا، اور صلوٰۃ الحاجت آپ ﷺ پڑھتے تھے، اور جب آپ نے بھی ضرورت کی نماز پڑھی تو انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔

حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں آدمی صلوٰۃ الحاجت والی نماز میں پہلی رکعت میں الْمُنْشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ اور دوسری رکعت میں الْمُتَرَكِيفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ پڑھ لے انشاء اللہ اگر دل کا یقین ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی بڑی سی بڑی ضرورت بھی پوری فرمادیں گے، بشرطیکہ جائز ضرورت ہو، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ، الْمُنْشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ، کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسلی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دو دو مرتبہ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مصیبت کے ساتھ راحت لگی ہوئی ہے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔

## نماز کے ذریعہ دعا مانگیں

اس لئے جب کبھی کوئی مسئلہ آئے ہم اپنی نماز کے ذریعہ اللہ سے مانگنے والے بنیں، ماں بہنوں کو بھی کی تلقین کریں اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، رَبَّنَا هبْ لَنَا مِنْ أَذْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّيِّينَ إِمَاماً، قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لئے یہ دعا کرتے ہیں، اس کنٹری کے

مسلمانوں کے لئے اس دعا کا یاد ہونا بیجد ضروری ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ تعالیٰ کتنا ارحم الراحمین ہے کہ درخواست کیسے لکھنا ہے اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، کہ تم کیسا بھی لکھو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا کہ ان کو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔

## صبر کی مشق کروائی جاتی ہے

بہر حال ایک تو نماز ہے اور دوسرا آدمی نفس کے تقاضوں کو مارے، نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ شَهْرُ الْمُوَاصَةِ وَشَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اس میں ایک مہینہ تک نیٹ پریکیش کروائی جاتی ہے جیسے کھلاڑی جب میدان میں کھلنے کے لئے اترتا ہے تو پہلے نیٹ پر کٹش کرتا ہے، اور اگر اسکو اس میں فنگ کا سرٹیفکٹ دیا جائے تو اب وہ کہیں بھی کھیل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ نیٹ پریکیش کروائی، کہ تم بھوکے رہو پیاس سے رہو، حلال بیوی سے بھی دن میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی تھیلی میں خرید کر فروٹ لارہے ہو، لیکن اسکو نہیں کھا سکتے اس لئے کہ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔

## دل صاف ہونا ضروری ہے

اور دیکھو میرے بھائیو! جب تک کسی چیز کے میل کچیل کو دور نہ کیا جائے تب تک اندر ڈالے جانے والی چیز صاف نہیں رہ سکتی اور اس کو یوں سمجھئے کہ گلاس میں پانی ڈالنے سے پہلے اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، اور ایک گلاس گندابے

اس میں کچرا ہے، اور آپ نے گلاس میں پانی ڈالا تو وہ صاف پانی بھی گندرا ہو جائیگا، پانی گندرا نہیں تھا گندے گلاس میں پڑنے کی وجہ سے وہ گندرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ماہ رمضان میں یہی نظام ہے کہ دن بھر روزہ رکھوا کراس کے دل کو پاک کیا جاتا ہے اور رات میں تراویح کے ذریعہ اس کے اندر نورانیت ڈالی جاتی ہے، قرآن مجید ایک نور ہے جو اس کے دل میں اتارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل پاک ہو جاتا ہے قرآن مجید رمضان کے مقصد کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنُ**، کہ ہم نے رمضان کے مہینہ کو اس لئے نازل کیا تاکہ تم تقوی اختار کرو۔

## ابليس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

اور دیکھو! نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے، اس لئے کہ شیطان کو بہکانے والا بھی یہی نفس تھا، شیطان تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ جنات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ناپاک جنات ہے تو وہ شیطان ہی ہے، اور جنات لوگ آپس میں بہت لڑتے تھے اور یہ ابليس ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا اور فرشتے آسمان سے آتے جاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنات عبادت گزار ہے باقی سب فسادی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو ماحول راس نہیں آ رہا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان کی سفارش کی اس کو آسمان پر لے آئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے آؤ اب وہاں بھی عبادت کرنے لگا لیکن عبادت کرتے کرتے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی بلند ہو گیا یہ تکبر انسان کی بھی سب سے خطرناک

بیماری ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے ایک کتاب لکھی ہے: ام الامراض: اس کا نام ہے یعنی تمام بیماریوں کی جڑ، اور اس میں تمام بیماریوں کی جڑ تکبر کو کہا گیا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ انسان تکبر کو ختم کر دے۔ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو خود بخود اس کے لئے اعمال کا کرنا آسان ہو جائیگا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو آدمؐ کے سامنے سجدہ کر، تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا بہر حال شیطان کو اس چال پر آمادہ کرنے والا اس کا نفس تھا اور حضرت یوسفؐ نے بھی فرمایا کہ وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَ حَمَّ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو بہت اچھا نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس بہت اچھا ہے: حضرت تھانویؓ نے مرض الوفات میں بستر پر لیٹے لیٹے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے نفس پر ابھی بھروسہ نہیں ہے اگر کسی بند کمرے میں کوئی غیر محروم عورت یا میں رہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس مجھ کو پچالے گا، حالانکہ وہ نجح سکتے تھے لیکن لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے اس طرح فرمایا، تو ہم اور آپ بھی نفس سے مطمئن نہ ہوں۔

## نفس لوامہ کی تعریف

یہی نفس اگر انسان کو صبر پر آمادہ کرتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں قرآن پاک نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے کہ لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ، جب نفس لوامہ کو برپنچھڑا جاتا ہے جب اس پر محنت کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور صبح و شام

استغفار پڑھ پڑھ کرنفس کو بنایا جاتا ہے تو یہ نفس اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی اگر کسی دفعہ نحر میں سونا چاہے تو اس کا نفس اس کو جگاتا ہے کہ سونا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ جب تک وہ ادا نہ کرے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے، اور جس کا نفس کچھ بننا ہوا ہوتا ہے وہ اگر نماز پڑھ لے یا زکوٰۃ دیدے تو بدن ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے ورنہ اس کو چیز نہیں آتا ہے، جب بھی نماز کا وقت آئے تو یہ نفس اس کو کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، اس اللہ کی نافرمانی مت کر، جس نے تجوہ کو ہر اعتبار سے سکون دیا، وہ نفس اس کو ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تو کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اور اس نفس کے ڈانٹنے کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو نفس تیرے نمبر پر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔

## نفس مطمئنہ کا مطلب

اور نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس لواحہ کے ڈانٹنے کے نتیجہ میں اس کو عمل کر کے اطمینان ہوتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کہ، **الَّذِينَ امْنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ**، جن کے قلوب اللہ کے دھیان سے اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری آتی ہے کہ، **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ، إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً**، جس کو قرآن پڑھ کر دل کا سکون ملتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو مر نے سے پہلے ہی فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

## آخرت مومن کا وطن ہے

اور ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نفسِ مطمئناً تو لوٹ جا خوشی اپنے رب کی طرف، اور لوٹنا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی کبھی وہاں سے گزر رہو، میں انگلینڈ سے لوٹا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کبھی انگلینڈ آیا تھا، جس کو واپس آنا کہتے ہیں، اور واپس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سے چلے دوبارہ وہیں آئے اس کو واپسی کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نفسِ مطمئناً تم واپس ہو جاؤ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نفسِ مطمئناً! تم اپنے رب کے پاس سے چلے تھے، اب تمہیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے جو تمہارا وطن ہے اور وطن میں جانے کے لئے آدمی کی طبیعت تڑپتی ہے۔

وطن کی محبت کے لئے اس کے جذباتِ موجز ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اس کا وطن قریب آتا ہے اسکے قدم بڑھتے جاتے ہیں، آپ نے بیل کو بھی دیکھا ہو گا کہ دن بھر کھیت میں کام کرتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کا گھر قریب آتا ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ حضرات بھی کہیں کام کرنے جاتے ہیں گھر قریب آتا ہے تو گیس پر پیر اور زیادہ پڑتا ہے اور اس پیڈ بڑھتی جاتی ہے، میرے بھائی یہی توجہ ہے کہ اللہ والوں کو جب موت نظر آتی ہے تو وہ اور زیادہ بھاگتے ہیں اس لئے کہ ان کو تو وطن نظر آتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ کو دو اختیار دیئے گئے تھے دنیا میں رہنا ہے یا اوپر آنا ہے تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللَّهُمَّ الْرَّفِيقُ الْأَعْلَى۔ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اگر ہم نے اپنا گھر آخرت کو سمجھا ہے تو موت ہمارے لئے کوئی مشکل

چیز نہیں ہے، موت تو ہمارے لئے بہت آسان ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ موت تو مومن کے لئے تخفہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ **الْمَوْتُ جَسْرٌ يُوْصِلُ الْحَيِّبَ إِلَى الْحَيِّبِ**، کہ موت تو درمیان میں برتح ہے ادھر اللہ ہے اور ادھر بندہ ہے، اور درمیان میں برتح ہے جب بندہ برتح پار کر کے آتا ہے تو ڈائیریکٹ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے، لیکن یہ بات اس وقت پیدا ہو گی جب آدمی کا نفس مطمئنہ بنے گا جب آدمی نے اپنے نفس کو دبایا ہو گا ہم نفس کے غلام نہ بنیں بلکہ نفس کو اپنا غلام بنائیں، ہماری طبیعت شریعت کے تابع ہو، نہ کہ شریعت ہماری طبیعت کے تابع ہو، شریعت جو کہہ گی ہم وہی کریں گے شریعت جن کاموں سے منع کردے گی ہم ان سے بچیں گے، لیکن ہمارا حال الثالث ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ہمارے تابع ہو جائے، طبیعت جو بولے گی ہم اس کے مطابق شریعت کو چلا میں گے، اور فتویٰ مانگنے میں بھی ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اپنی نفس کی خواہش کے مطابق ہم فتویٰ طلب کرتے ہیں یہ غلط بات ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رمضان کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں اتری، ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ نفس ہمارا غلام ہو۔

## واقعہ

خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں خواجہ اور صوفی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جن کو دنیا کی کچھ نہ پڑی ہو، جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگان دین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، تو خواجہ باقی باللہ کے پاس با دشانے

قادصد بھجوایا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آنے دو، جب بادشاہ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹیم آتی ہے جو راستہ صاف کرتی ہے اور ہٹوپکو کی آواز لگائی جاتی ہے، اب خواجہ صاحب مجدوب اللہ والے تھے اپنی خانقاہ میں تکیہ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیم نے آکر کہا تھا کہ خواجہ صاحب بادشاہ سلامت بالکل قریب ہیں آنے ہی والے ہیں اس لئے اپنے پیر سید ہے کر لیجئے اور خانقاہ ذرا صاف کر لیجئے، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آنے والا میرے غلام کا غلام ہے اس کے لئے میں اتناسب انتظام کیوں کروں؟ اس لئے کہ وہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، بادشاہ آیا لیکن کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بادشاہ سلامت خواجہ صاحب کے غلام کے غلام کیسے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ بادشاہ آپ کے غلام کیسے ہیں؟ فرمایا کہ نفس میرا غلام ہے اور بادشاہ اس نفس کا غلام ہے، نفس میرا نوکر اور بادشاہ اس نفس کا نوکر، بہر حال آدمی کے اندر نفس کو مارنے کی صفت پیدا کرنا ضروری ہے۔

ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد بیمات صاحب فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں جس نے دو کام کر لئے وہ اس زمانہ کا سب سے بڑا متقی بن گیا ایک تو یہ کہ وہ فرانس کو ادا کر لے اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچالے جو ان دونوں کا مول کو کرے گا وہ اس زمانہ کا سب سے بڑا متقی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے اللہ والوں کی نظر کہاں جاتی ہے۔

## عقل نہ چلا کیں

میرے بھائیو! انسان بھی دماغ چلاتا ہے خاص طور پر آپ کے یوروپ میں یہ بات زیادہ میں نے دیکھی کہ کوئی چیز بیان کرو تو کہتا ہے ایسا کیوں؟ یا، وائے، کالفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی ایسا کیوں؟ تو سنو کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جس نے کسی اسلامی حکم کے بارے میں کیوں کہا وہ ہلاک ہو گیا اس لئے کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں اللہ نے فرمادیا وضو کرو بس ہمیں وضو کرنا ہے اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نجاست کہاں سے نکلی اور ان چیزوں کو دھونے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے ہم تو بس وضو کریں گے انشاء اللہ، اس لئے کہ یہ ہمارے خالق کا حکم ہے اور ہم بستری ہوئی کسی اور مقام سے، اور غسل پورے بدن کو کرایا جاتا ہے، اس کا بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے اللہ نے کہا غسل کرو، اس لئے ہم کر رہے ہیں، باقی ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بہر حال ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہو کہ، يَا أَيُّتَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ، إِذْ جَعَى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً: اللَّهُ تَعَالَى هُم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَّابَةِ أَجْمَعِينَ  
وَآخِرَ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## افتباں

ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس ایک صحابیؓ نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ کچھ نصیحت فرمادیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان نکالو، انہوں نے زبان نکالی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور وہ صحابیؓ پوچھتے ہیں کہ، هَلْ نُواخُذُ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ الْسِنَّتَنَا، کیا زبانوں کے بول پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی، حضور ﷺ نے فرمایا، هَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمِ إِلَّا حَصَائِدَ الْسِنَّتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں اونڈھے منہ صرف زبان کی بنابر لے جایا جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# انسان کا ہر قول و عمل محفوظ کیا

## جاتا ہے

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى الـ  
واصحابـه الذين اوفـوا اعهـدهـ، اما بعـد فاعـوذ بالله من الشـيطـن الرـجـيمـ  
بـسـمـ اللـهـ الرـحـمـنـ الرـحـيمـ لـاـ خـيـرـ فـيـ كـثـيرـ مـنـ نـجـوـاـهـمـ إـلـاـ مـنـ أـمـرـ  
بـصـدـقـةـ أـوـ مـعـرـوـفـ أـوـ إـصـلـاحـ بـيـنـ النـاسـ وـمـنـ يـقـعـلـ ذـالـكـ اـبـتـغـاءـ  
مـرـضـاتـ اللـهـ فـسـوـفـ نـوـتـيـهـ أـجـرـ اـعـظـيـمـاـ، وـقـالـ تـعـالـىـ ، إـذـا زـلـلـتـ  
الـأـرـضـ زـلـزـالـهـاـ وـأـخـرـ جـتـ الـأـرـضـ اـثـقـالـهـاـ وـقـالـ إـلـاـنـسـانـ مـاـلـهـاـ يـوـمـئـذـ  
تـُـحـدـدـتـ أـخـبـارـهـاـ بـأـنـ رـبـكـ أـوـحـىـ لـهـاـ، وـعـنـ النـبـيـ عـلـىـهـ اـنـهـ قـالـ  
أـمـلـكـ عـلـيـكـ لـسـانـكـ وـالـيـسـعـكـ بـيـتـكـ وـابـكـ عـلـىـ خـطـيـئـتـكـ  
صـدـقـ رـسـولـهـ النـبـيـ الـامـيـ الـكـرـيمـ وـنـحـنـ عـلـىـ ذـالـكـ لـمـنـ الشـاهـدـينـ  
وـالـشـاكـرـينـ وـالـحمدـ لـلـهـ رـبـ الـعـالـمـينـ :

محترم بھائیو بزرگوار دوستو۔

تراتوٰت کے پہلے میں نے کوئی اورضمون سوچا تھا لیکن تراوٰت کے دوران ایک آیت پڑھی گئی تو میں نے سوچا کہ یہ بیان بہتر ہو گا اس لئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو بات معاشرہ کے لئے زیادہ مفید ہو، اس کو پہلے بیان کر دینا چاہیے۔

## مسلمان کا ہر عمل محفوظ ہوتا ہے

ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان جو بھی بولتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو لکھ بھی لیتے ہیں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ، کتم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاو اُن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور قیامت کے دن اُن اللہ تعالیٰ اس پر کپڑ بھی فرمائے گا۔

تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، چبیسویں پارہ میں سورہ قاف ہے اللہ کے رسول ﷺ کے دن اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے، جہاں سورہ الْم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کی روایات ہیں و ہیں یہ روایت ہے کہ سورہ قاف کی بھی اللہ کے رسول ﷺ تلاوت فرماتے تھے، اس سورہ قاف میں ایک آیت کریمہ آئی ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا

لَدِيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ، کہ انسان جو بھی بولتا ہے جو بھی کہتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک نگران طریقہ ہے۔

## اعضاء گواہی دیں گے

اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ٹیپ ریکارڈ کو چالو کریں گے جس کے لئے نہ بجلی کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی پا اور کی ضرورت ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پا اور ہوگا انسان کے ہاتھ بولیں گے انسان کے پیرو بولیں گے انسان کے تمام اعضاء بولیں گے کہ ہم نے غیر محروم عورتوں کو دیکھا ہے ہم نے حرام کمایا ہے، ہاتھ کہے گا کہ میرے ذریعہ اس انسان نے غلط کام کیا تھا پیرو بھی بولیں گے کہ میرے ذریعہ اس انسان نے غلط کام کی طرف چلا تھا۔

## زمین کے خزانوں کا مطلب

قرآن مجید نے بہت پہلے سے ہم کو بیدار کر دیا ہے کہ، إِذَا زُلْزَلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلَهَا قیامت کے دن زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن زمین اپنے اندر کے خزانوں کو نکالے گی اور وہ کون سے خزانے ہو نگے، وہ سونے چاندی اور پٹرول کے خزانے نہیں ہو نگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری اماں حضرت عائشہؓ کو جزاۓ خیر دے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمین کے خزانہ نکالنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ زمین بیان کرے گی کہ میرے ٹکڑے پر فلاں وقت فلاں آدمی نے سجدہ کیا تھا اور فلاں آدمی نے

میرے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور زمین یہ بھی کہے گی کہ فلاں بندے نے میرے اوپر حرام کمالی حاصل کی تھی اور فلاں اجنبی عورت پر نظر ڈالی تھی، فلاں نے فلاں کو گالی دی تھی یا فلاں کے بارے میں غلط پلانگ کی تھی یا کسی کی غیبت کی تھی، یہی زمین کا خزانہ ہے، اور جب زمین کے اندر سے خزانے نکلنے لگیں گے تو زمین حرکت کرنے لگے گی، پھر اس میں زلزلہ آجائے گا اس لئے کہ چیز اگر ہلکی ہو جائے تو وہ زیادہ ہلتی ہے، گاڑی میں لوڈ نہ ہو تو وہ گاڑی بہت کوڈتی ہے اسی طرح جب قیامت کے دن زمین کے اندر کے یہ خزانے نکلیں گے تو زمین حرکت کریں گی۔

## زلزلہ میں سائنسی نظریہ

اور زلزلہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پلیٹین رکھی ہوئی ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں لوہے کے خزانے، سونے چاندی کے خزانے، پیتل ہیرے جواہرات کے خزانے، اور اس طرح کے بہت سے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین بھاری ہے، اور رکی ہوئی ہے لیکن جب زمین کے نیچے سے وہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں تو زمین کا وہ حصہ خالی ہو جاتا ہے اور خالی چیز ہلنے لگتی ہے، مثال کے طور پر گاڑی میں صرف ایک ہی آدمی ہو تو گاڑی ہلنے لگتی ہے، اور اگر گاڑی بھری ہوئی ہو تو نہیں ہلتی ہے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور زمین کے خزانے زمین کے اندر موجود تھے، اس لئے زلزاں کی تعداد بہت کم تھی لیکن اب رسیرچ کرنے والوں نے رسیرچ

کیا زمین کو اندر تک کھودا، اور اس کے خزانوں کو بکشہت نکالا جا رہا ہے، سونا چاندی پڑوں نکال کر زمین کو خالی کیا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ زمین کو خالی کیا جا رہا ہے اتنے زیادہ زلزلے آ رہے ہیں، تو قیامت کے دن بھی خزانے نکلیں گے ہم سامنس کی ہربات کو غلط نہیں کہتے ہیں، کچھ کچھ اسلام سے میل بھی کھاتی ہے بلکہ اسلام انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔

## قیامت کے دن رجسٹر ہو گا

بہر حال قیامت کے دن زمین میں زلزلہ آئے گا انسان اس زلزلہ کو دیکھ کر کہے گا: وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، عجیب بات ہے کہ زمین بیان کر رہی ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کیا وہ ختم ہو گیا یہاں تو زمین بھی بیان کر رہی ہے، اس دن زمین تمام کیفیتوں کو بیان کرے گی اس کے اوپر جو جو کیا گیا سب بیان کرے گی اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ، بِإِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ اے زمین تو سب کچھ بیان کر، اس لئے وہ بیان کرے گی اور رجسٹر بھی کھلا ہو گا۔

سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَهَا۔ اس دن مجرمین کے سامنے ایک رجسٹر رکھا جائیگا اور وہ لوگ اس رجسٹر کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہائے افسوس یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں تو جو کچھ ہم نے کیا چھوٹا بڑا ہر قسم کا عمل موجود ہے، وَوَجَدُوا

ما عَمِلُوا حَاضِرًا: کہ سب موجود ہو گا اب یہاں ایک سوال ہو گا کہ جب رجسٹر اتنا بڑا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہو گا؟ اسی مناسبت سے ایک واقعہ ہے ابھی سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابردار العلوم کو کسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔

## مولانا محمد قاسم نانو تویؒ کی ذہانت

یہی سوال جحۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانو تویؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دلی کے اسٹشن پر ایک ہندو نے کیا تھا، کہ مولانا تم لوگوں کا یہ مانا ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب کے سب موجود ہے بچپن سے لیکر آخر تک جو بھی انسا کرتا ہے وہ سب محفوظ ہیں، اور اس کے سامنے قیامت کے دن رجسٹر کھولا جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہے اور لکھا ہے تو کہاں رکھے ہوں گے، اس لئے کہ اس کے لئے اتنی بڑی جگہ بھی تو چاہیئے، مولانا قاسم صاحبؒ نے اس کو پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ بچپن یا ساٹھ سال کی میری عمر ہے۔

حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنی زندگی کے کونسے حصے کی ساری باتیں یاد ہیں، اس نے کہا کہ مجھ کو بچپن سے لے کر اب تک کی سب باتیں یاد ہیں، پوچھا برادر یاد ہے؟ کہا کہ ہاں برابر یاد ہے کہا کہ کیا تم نے لکھا ہے ان سب باتوں کو کوئی رجسٹر ہے جس پر تم نے لکھا ہے، کہا کہ یہ سب بچپن سال پرانی باتیں ہیں اور میں کہاں لکھوں ان تمام باتوں کو، لیکن مجھے یاد ہے، کہا کہ کیسے یاد ہے کہا میرے دماغ میں یہ سب باتیں ہیں، حضرت نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ دماغ کتنا بڑا ہے اس نے کہا چھوٹا سا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب پچاس سال کا ریکارڈ بغیر کسی رجسٹر کے اور

بغیر کسی دفتر کے اس چھوٹے سے دماغ میں تم محفوظ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لئے کسی انسان کے ریکارڈ اور اس کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لئے کسی رجسٹر کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جب کہ وہ خالق ہے، اور اس پر میں حاشیہ بڑھاتا ہوں کہ آج کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے آپ نے سی ڈی دیجی ہو گی جو کمپیوٹر میں چلتی ہے، وہ باہر سے ذرا بڑی دھرتی ہے، لیکن اس کو جب اندر سے کھولا جاتا ہے تو اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اس چھوٹی سے چیز میں ہزاروں برسوں کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، جب انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے پورے ریکارڈ محفوظ فرمائے کریم جس کی کوئی شکل ہو یا نہ ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

## سورہ کہف کی فضیلت

اور لگے ہاتھ ایک بات بتلا دوں کہ سورہ کہف پندرہویں پارہ میں ہے جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں اور سورہ کہف اس کے لئے روشنی کا ذریعہ ہو گا، اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی دس آیتیں منہ زبانی یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

## سامنہ کا اعتراض

میرے بھائیو! کتنا تیقینی قرآن پاک ہم کو ملا ہے لیکن آج کل ہماری

زندگیاں قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہیں، میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتارا ہوں کہ ہماری کہی ہوئی باتیں ہوا میں نہیں اڑ جاتی ہیں بلکہ محفوظ ہوتی ہیں اور دنیا کی سامنس بھی کہتی ہے کہ ہوا میں چیزیں اور باتیں نہیں اڑتی ہیں بلکہ محفوظ ہوتی ہیں اسی لئے سامنس آج بھی اس بات کی کوشش میں ہے کہ اس آواز مقدس کو حاصل کیا جائے جو آج سے چودہ سو برس سے پہلے جناب نبی اکرم ﷺ کی آواز مبارکہ نکلی تھی، اس سامنس دان نے قرآن پڑھا کہ آواز ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ محفوظ ہوتی ہے اس نے اس پر عمل کیا اور کھوج شروع کی، اور دیکھو ریڈ یو پر بھی ہم جو آوازیں سنتے ہیں یہ بھی ہوا سے ہی ہم تک پہنچتی ہیں اگر بولکر آواختم ہو جاتی تو ریڈ یوٹی وی چینل وغیرہ کیسے چلتے تھے، پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بتلا دیا کہ جو بھی تم کرتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا اور فون میں بھی انسان نے انڈیا سے کہا تو ایک سینئنڈ میں وہ آواز آپ کے انگلینڈ میں آ جاتی ہے، ہوا اس کو محفوظ کر لیتی ہے، تو انسان جو بھی بولتا ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائیگا، اسی لئے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے تو لوپھر بولو، اور کبھی کبھی انسان ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا لیکن اس جملہ کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔

## حضرت عائشہؓ کو تنبیہ

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیہاں حضور اکرم ﷺ کی باری تھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو نو یویاں تھیں آپ

صلی اللہ علیہ وسلم باری باری انصاف کے ساتھ ان کے یہاں جاتے تھے تو حضور ﷺ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حضرت صفیہؓ پہلے یہودی تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا شمار ازدواج مطہرات میں ہوا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور ﷺ کی تمام بیویوں میں سب سے بہترین کھانا بنانا حضرت صفیہؓ جانتی تھی، اب حضرت عائشہؓ کی باری تھی تو حضرت صفیہؓ نے کچھ کھانا بنا کر حضرت عائشہؓ کے گھر بھیجا حضرت عائشہؓ کو یہ بات برداشت نہیں ہوا، اس لئے کہ محبت کے اندر پاٹر شپ برداشت نہیں کی جاتی، وفادار عورت اپنے شوہر کو بھی کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھ لے تو اس کا کھانا پینا خراب ہو جاتا ہے، اور وفادار شوہر بھی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ہنسنے منہ دیکھ لے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، بہر حال حضرت عائشہؓ جانتی تھی کہ کھانا حضرت صفیہؓ نے بھیجا ہے اور وہ کھانا ذائقہ دار ہو گا تو حضور ﷺ تعریف بھی کریں گے اور وہ میرے لئے ناقابل برداشت ہو گا۔

اس لئے حضرت عائشہؓ نے اس پلیٹ کو جس میں کھانا آیا تھا ہاتھ مار دیا اور پلیٹ نیچے گر گئی ٹوٹ گئی کھانا بھی سب گر گیا آپ ﷺ سمجھ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو ہنسنے ہوئے فرمایا کہ عائشہ بدلتہ دینا پڑے گا، کھانا تو صفیہؓ نے میرے لئے بھیجا تھا لیکن پلیٹ تو واپس کرنی پڑی گی، با توں با توں میں حضرت عائشہؓ نے صرف اتنا کہا کہ وہ صفیہ جو ٹھکنی ہے، اب حضور اکرم ﷺ غصہ ہو گئے، کہ عائشہ پلیٹ کا توڑ دینا کھانے کا گردینا محبت کی وجہ سے تھا وہ میں سمجھتا

ہوں لیکن صفیہ کے بارے میں تمہارا یہ کہنا کہ وہ گھنی جس کی ہائٹ کم ہے اس طرح تمہارا صفیہ کو کہنا اتنا خطرناک ہے گویا تم نے صفیہ کی بے عزتی کی اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ، يَا عَائِشَةَ لَقُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَسَوَّدَتْهُ، کہ عائشہ تم نے اتنی خطرناک بات کہی کہ اگر سمندر کے سفید پانی میں اس کو ملا یا جائے تو وہ پانی بھی کالا ہو جائے، اور ہم لوگ اپنی چوبیں گھنٹہ میں نہ جانے کس کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، یہاں تو کہنے والی حضرت عائشہؓ تھیں، پھر بھی پکڑ ہوتی اور دیکھو بڑوں کی چھوٹی غلطی پر بھی بڑی پکڑ ہوتی ہے، بہر حال جب زبان سے لکلے ہوئے ایک کلمہ پر گرفت ہے تو دیگر اعمال میں ہمیں کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

### نبی ﷺ کی نصیحت

ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس ایک صحابیؓ نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ کچھ نصیحت فرمادیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان نکالو، انہوں نے زبان نکالی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ، هَلْ نُواخَذُ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ الْسِنَّتُ، کیا زبانوں کے بول پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی، حضور ﷺ نے فرمایا، هَلْ يُكَبِّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ الْسِنَّتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں اوندو ہے منہ صرف زبان کی بنابر لے جایا جائیگا۔ اس لئے ہم زبان کی حفاظت کریں، زبان کے بہت سارے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے انسان دوزخ میں جائے گا۔

## زبان کے کرتوت

اور یہ زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں، جرم صَغِیر وْ جُرمَةَ كِيْر، اس کا جسم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے، زبان کوئی بھی بات بول کر اندر ہو جاتی ہے لیکن گال مار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے بدن، مار کھاتی ہے کمر، اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ انسان کے بدن کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو سلامت رہ، تو اگر غلط استعمال ہوئی تو ہمیں مار کھانا پڑے گا، آج جو آیت میں نے پڑھی اس سے ہٹ کر میں حدیث میں چلا گیا تھا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ دمی کچھ بولے فائدہ اس میں ہے کہ آدمی خاموش رہے۔

## کتنے موقع پر بات کرنی چاہئے

اگر بات کرنی ہی ہے تو قرآن پاک نے تین جگہیں بتلائی اپنی زبان سے یا تو کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دو، یا اپنی زبان سے کسی کو بھلی بات بتلادو، یا اپنی زبان کے ذریعہ دولٹنے والوں میں صلح پیدا کروادو، جس کو فرمایا، إِلَامَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہی تین جگہوں کا تذکرہ ہے جہاں بات بہتر ہوتی ہے، آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں دین کی باتیں بھی سنی بیان بھی ہوا عبادتیں بھی ہونیں لیکن جہاں مسجد سے باہر نکلے کہ چغلی غیبت، اور لا یعنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم کیوں اس طرح اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں ایک تو ہمارا کوئی سجدہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بیہاں قابل قبول ہو، اور غیبت کر کے وہ بھی اس کو

دیدیتے ہیں، آپ کے کچھ کہنے سے کچھ ہونے جانے والا تو نہیں ہے بہت بہادری ہے تو اس کے سامنے جا کر بولو، قرآن کہتا ہے کہ صلح کی بات کرو، اور آج کل ہمارا حال یہ کہ ہم صلح کروانے کے بجائے اور چنگاری کا کام کرتے ہیں، اگر کسی نے گالی نہیں دی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے تم کو گالی دی ہے۔

## تین جگہ جھوٹ بولنا جائز

بلکہ اگر کہیں آپ کے کہنے سے جھگڑا مل سکتا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے مثلاً ایک آدمی نے کسی کی آپ کے پاس چغلی کی، جس کی چغلی کی گئی ہے اس نے آپ سے پوچھا کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا آپ جھوٹ بولو اور کہو کہ وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، اس طرح جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ صدقہ کا ثواب رکھتا ہے، بلکہ تین جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اگر کوئی عداوت ہے دو آدمیوں میں جھگڑا ہے ایک نے گالی دی اب دوسرا کے پاس جا کر کہنا کہ وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا لانکہ اس نے گالی دی ہے لیکن صرف اس لئے کہ اس کا دل برانہ ہو، اس کے سامنے جھوٹ کہنا جائز ہی نہیں بلکہ صدقہ کا ثواب ہوگا، اور یہ جھوٹ بولنا اس لئے جائز ہے کہ اس جھوٹ کا مقصد اچھا ہے اور اسلام مقصد کو دیکھتا ہے، اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا کہ آدمی کیا کر رہا ہے بلکہ اسلام تو مقصد کو دیکھتا ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، اور اگر آپ نے چ بولا کہ یہ تو تیرے کو گالی دے رہا تھا آپ نے چ کہا لیکن آپ گنہگار ہو گے اس لئے کہ اس چ کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا۔

## جھوٹ بولنے کی دوسری جگہ

اور دوسری جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے سامنے انسان جھوٹ بول سکتا ہے اس کا دل خوش کرنے کے لئے، مثلاً بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے انسان بولے کہ تیرے سامنے تو چودھویں رات کا چاند بھی شرماجائے حالانکہ کہاں چودھویں رات کا چاند اور کہاں یہ حضرتی، لیکن صرف دل خوش کرنے کے لئے کہا جائے تو کوئی حرخ نہیں، اور آپ کہیں کہ جو کھانا آپ نے بنایا ہے اس کی بات ہی اور ہے میں نے کئی ہوٹلوں کے کھانے کھائے مگر ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا، وہ خوش ہو گئی وہ عورتیں ہمارے اس ایک جملہ کو ترس جاتی ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہر جگہ کی تعریف کریں گے لیکن اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔

## محل تعریف نہ کریں؟

یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ جو حسن ہمارے لئے جائز تھا ہم نے اس کی تعریف نہیں کی اور جو حسن جائز نہیں تھا ہم اس کے دھوکے میں آ کر اس کی تعریف کرنے لگیں بات وہی ہے کہ اعمال جب الٹے ہو جائیں تو چیزیں بھی الٹی ہی نظر آتی ہیں، گھر کی عورت کی طرف دیکھنے میں اس کو لذت نہیں آئے گی باہر کی کالی عورتوں کو بھی دیکھنے گا تو تعریف کرے گا یادل میں پانی بھر لائے گا، اسلام بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہا ہے پھر ہم کیوں اس میں بخیلی سے کام لیں۔ اسلام کہہ رہا ہے، رمضان میں زیادہ نمک گرجائے تب بھی اس کی تعریف کرو کہ تم نے

افطار میں سمو سے بہت اچھے بنائے اللہ تم کو جزائے خیر دے ایسے سمو سے تو کہیں بھی نہیں مل سکتے اور جو کھانا تم نے بنایا تھا بڑا جواب تھا ایسا کھانا تو کہیں بھی نہیں مل سکتا آپ کے اتنا کہنے سے اس اللہ کی بندی کا دل خوش ہو گیا اللہ کے یہاں آپ کو ثواب مل گیا۔

## بیوی کو تکلیف نہیں دینا چاہئے

آج کل عورتوں کو کھانا بنانا نہیں آتا اس پر لڑائیا ہوتی ہیں آپ بنائیجئے کیا حرج ہے اسلام نے ہمیں یہ بھی سبق سکھایا ہے کہ عورتوں کے کام میں ہائٹھ بٹائیں ایک جگہ میرے پاس سوال آیا تھا کہ فلاں دین کا علم رکھنے والے آدمی نے محض اپنی بیوی سے اس لئے جھگڑا کیا کہ وہ عورت کھانا بنانا نہیں جانتی تھی، میں نے کہا کہ وہ پڑھا کر کھانہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی مولوی اس طرح کہے تو وہ مولوی نہیں ہے، اس لئے کہ علم نام ہے اللہ کی معرفت کا اگر آپ کو اللہ کی معرفت اللہ کا تقوی بغیر علم کے آ جاتا ہے تو آپ بھی مولوی ہو جاؤ گے، اور صحیح معنی میں عالم کہلاوے گے وہ آدمی جو اپنی بیوی کو ان چیزوں پر مارتا ہے وہ جاہل ہے جس نے رُگِ انسانیت کو تار کر دیا، آپ اس کو سکھائیے کچھ دنوں میں وہ خود کھانا بنائے گی لیکن ہمیں وہ ڈھنگ کہاں آتا ہے، ہم نے نبی کی سیرت کو نہیں تھاما، ہم نے دل کی ہوس کو مد نظر رکھا اسلام نے اس عورت کا دل نہ دکھانے کی خاطر اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے لئے جھوٹ بولنے کی اجازت دی اور ہم اس کو کھانا برابرنہ بنانے پر ماریں، یاد رکھو جتنی سختیاں دنیا میں اپنے ماتحتوں سے لو گے، اللہ بھی اتنا ہی سخت حساب لے گا، اور اگر دنیا میں لے کر چلنے کا مزاج بناؤ گے اللہ تعالیٰ بھی معمولی بہانے سے چلا لے گا۔

## جھوٹ کی تیسری جگہ

بہر حال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسری جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ میدان جنگ ہے کہ آدمی میں کوئی بہادری نہیں ہے اور آدمی بہادری دکھائے کسی اور راستہ سے جا رہا ہے لیکن دشمن کو دوسرا راستہ بتا دے جائز ہے جیسے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ، جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے۔

## عمل کرنے کا ثواب

بہر حال۔ مذکورہ باتوں پر تم نے عمل کیا اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو قرآن کہتا ہے کہ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ، کہ جو کوئی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا ان حکمات پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجر اور بڑے انعام سے سرفراز فرمائیں گے۔

## آپ ﷺ کا صلح کے لئے جانا

کوئی لڑ رہا ہے کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا اللہ کے رسول ﷺ بغیر بلاۓ چلے جاتے تھے روایت میں آتا ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے یہاں کچھ آپسی اختلاف ہو گیا تھا حضور ﷺ خود تشریف لے گئے، اور حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ بھی دیا کہ اگر میں عصر کی نماز تک نہ پہنچ سکوں یا ایک روایت میں ہے کہ

ظہر کی نماز تک نہ پہنچ سکوں تو تم ابو بکر کو کہنا کہ وہ نماز پڑھا لیں اور ایک روایت میں آیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کہنا کہ وہ نماز پڑھا لیں، دیکھنے اللہ کے رسول ﷺ بغیر بلائے چلے گئے ہاں کچھ جگہ میں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ وہاں کچھ بولیں گے تو مسئلہ اور زیادہ بگزشتہ ہو تو وہاں نہیں بولنا چاہیے لیکن کوشش یہ ہو کہ ہماری زبان سے اچھے کلمات نکلیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمہ کو قتل کر بولا کریں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو۔

اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ رمضان میں کچھ لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ میں کسی کی غیبت کر لی، کسی کو برا بھلا کہدیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا، اور اس کے اوپر جو گناہ ہیں وہ الگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین۔

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
وَأَخْرُدْ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اقتباس

آج ہم اپنے اندر بھی اسی ایمان کی برکت سے بہادری پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں اعلان ہے کہ،

**مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جَوَ اللَّهُ كَاهُو جَاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔**

اللہ اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول ﷺ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کوئی سکون سے سفر نہیں کر سکتا تھا لیکن جہاں حضور ﷺ نے اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک عورت نے تن تہادور دراز کا سفر کیا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے مال کی طرف للچائی نظریں اٹھاتا تھا اسلام تو امن سکھاتا ہے اسلام سلامتی سکھاتا ہے جس کو فرمایا، **فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَامْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ** عبادت کرو کعبة اللہ کے رب کی جس نے تمہیں کھلایا اور خوف سے تم کو نجات دی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

# ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب

## لانا ہو گا

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى الله  
واصحابه الذين اوفوا اعهده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان  
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوًى فَلَا مَرَدَ  
لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ  
لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

## انسان شرف المخلوقات ہے

محترم بھائیو بزرگوار دوستو!

انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت محبت اور شفقت سے  
دنیا میں اس مخلوق کو وجود بخشنا ہے، جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے  
انسان کو اشرف، اکرم، اور قیمتی مخلوق بنایا ہے، اور اس بات کو قرآن پاک میں کئی

جگہوں پر بیان فرمایا، ایک جگہ فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔، ہم نے انسان کو باعزت بنایا اور اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے جب اتنی بڑی مخلوق ہے اور اتنے پیار محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اس کو دشمنوں کے زخم سے بچانا دھوکہ دینے والوں کے دھوکہ سے محفوظ رکھنا، اور شیطان کے مکروفریب سے بچانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ اور پر بیٹھے بیٹھے چلاتا ہے، شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت کرتا ہے، انسانوں کے مکروفریب سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرماتے ہیں، کائنات چھینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک انسان اللہ کا بنا ہوا رہتا ہے۔

## فرشتؤں کی دعا

میں نے جو آیت کریمہ ابھی پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں آسمان کا ایک اشاف ہے جس کو ہم فرشتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں قرآن پا ک نے اس دعا کو بھی نقل کیا ہے کہ، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، کما اللہ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ کر رکھا ہے ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ

تیرے جو بندے تیری طرف متوجہ ہوتے ہوں تیری راہ میں چلتے ہوں تو بے کرتے ہوں تو ان کو معاف کر دے، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچالے، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو انسان کو کانٹا چھینے سے اور گڑھے میں گرنے سے، اور کسی کے جملہ کرنے سے بچاتے ہیں، اور وہ فرشتے انسان کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اگر کبھی انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے اس کا دل گھبرا یا ہوا ہوتا ہے تو یہ فرشتے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل کرتے ہیں۔

## بدر میں فرشتوں کی آمد

یاد کرو غزوہ بدر کو کہ اللہ کے رسول ﷺ تین سو تیرہ صحابہ کو لیکر نکلے اور لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ ﷺ گئے اور سامنے مشرکین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کھائی دیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ کے حضور دعا مانگی، **اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَنْ تُعْبَدِ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، كَمَا إِنَّ اللَّهَ مُحْمَّدٌ بِهِرِ جَمَاعَتِ** میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ کلمات حضور ﷺ ناز کے ساتھ کہہ رہے تھے ہم نہیں کہہ سکتے یہ محبت کی بات تھی، اور محبت میں چیلنج ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ سناتے بازو پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت دعا ہو گئی، اب بس کچھے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت پاک نازل فرمائی کہ اے محمد ﷺ کیوں گھبرا گئے ہو، پانچ ہزار فرشتے میں تمہارے صحابہ کی مدد کے لئے اتار رہا ہوں، اور فرشتے آئے فرشتوں نے آکر لڑائی بھی کی اور صحابہ کے دلوں کو مضبوط بھی کیا، فرشتے اس قدر زیادہ آگئے کہ مشرکین کو مسلمان کئی گنا

زیادہ نظر آرہے تھے وہ پچھے ہٹنے لگے تھے؛ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ، **إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبَّهُوا الَّذِينَ آمَنُوا** ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتو! جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی ہمت بڑھاؤ، ان کے دلوں کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت! تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گا ارشاد ہے، **إِذْ تُسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِالْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ** صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے آج بھی اس کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے، میں مانگنا آنا چاہیے اللہ تعالیٰ آج بھی مدد اتار سکتا ہے۔

فضاء بد رپیدا کر فرشتے تیری نصرت کو  
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اور قطار اب بھی

## بشرکوں کے لئے شیطان آیا تھا

اور اُدھر مشرکوں کے ساتھ شیطان آیا تھا اور شیطان فرشتوں کو اچھی طرح جانتا تھا اس لئے کہ فرشتوں کی درخواست پر ہی تو وہ آسمان پر گیا تھا اس نے دیکھ لیا کہ سامنے جو لوگ نظر آرہے ہیں یہ محمدی اسٹاف نہیں ہے یہ مدینہ والے نہیں ہے یہ تو کوئی نئے لوگ لگ رہے ہیں، اس نے کہا جس کو قرآن پاک نے دسویں پارہ میں ذکر فرمایا کہ، **إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ** ، میں ایسی طاقت کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہو، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ چلا گیا۔

## شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟

آپ کہو گے کہ شیطان تو نظر نہیں آتا اور بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے ایک صاحب مجھے انڈیا میں ملے اور کہا کہ مولانا جنات دیکھنے کا بہت شوق ہے کوئی وظیفہ بتائیے میں نے کہا کہ پہلے بیت الحلاعہ کا نظم کرو بعد میں وظیفہ بتاؤں گا قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان تم کو دیکھ سکتا ہے لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اَنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان کو تم نہیں دیکھ سکتے، کیسے؟ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ نے ایسی کوچ دیکھا ہو، تو ان کی کھڑکیوں کے جو کاٹھ ہوتے ہیں ان کے اندر سے باہر کا تو دکھائی دیتا ہے لیکن باہر والوں کو اندر کا دکھائی نہیں دیتا حالانکہ اندر اندھیرا ہوتا ہے پھر بھی اندر سے دیکھ سکتا ہے، اور باہر والا آدمی اگر چہ روشنی میں ہو، اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اسی طرح آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں اور ایک آدمی روڈ پر سے روشنی میں جا رہا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال ہے شیطان اندھیرے میں ہے اور انسان روشنی میں ہے، شیطان کو تو انسان نظر آتا ہے لیکن انسان کو شیطان نظر نہیں آتا۔

## اللہ کی مدد

میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو معمولی معمولی چیزوں سے بھی مدد کر کے بتاتا ہے بھرت کا وقت ہے حضور اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مشرکین تلاش کرتے کرتے پہنچے اور اسی غار کے پاس آ کر وہ رک گئے جہاں حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر ؓ تشریف فرماتھے، اور وہ مشرکین غار کے منہ پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکرؓ نے ان کے

پیرے دیکھ لئے، حضرت ابو بکرؓ نے حضور ﷺ کو جگا کر کہا کہ یا رسول اللہ شمن یہاں تک پہنچ چکا ہے، اگر یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے تو ہمارا کیا ہو گا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ، لَا تَحْزِنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ابو بکرؓ ہبرانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کے ذریعہ حضور ﷺ کے دل پر سکون نازل فرمایا لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کو مدد کا ذریعہ بنایا، کہ ان مکڑیوں نے غار کے منہ پر جالا تن دیا انہوں نے سمجھا کہ یہاں تو مکڑیوں کا جالا ہے، اس میں کون ہو گا حالانکہ مکڑی کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے خود قرآن نے اس کی کمزوری کو مانا ہے کہ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْوُتِ لَبَيْثُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مگر اللہ کی طاقت جب کسی چیز کی حفاظت پر آتی ہے تو کمزور چیز کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمادیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی تو کوئی نہیں بچا سکتا۔

### فرشتوں کے ذریعہ ہماری حفاظت

اسکے آگے فرمایا کہ؛ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ: فرشتوں کی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے فرشتے الگ الگ قسم کے ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جن کا کام اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کا ہے اور بعض فرشتے وہ ہیں، جن کا کام اللہ کے عرش کا طواف کرنا ہے بعض فرشتے وہ ہیں جن کا کام بارش برسانا ہے بعض فرشتے وہ ہیں جن کا کام وحی لانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑی مہربانی فرمائی کہ بعض فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لئے مقرر فرمایا جو فرشتے، ہماری حفاظت کرتے ہیں بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ چھوٹا سا یچھے جب چلنا سیکھتا ہے تو اس وقت بھی فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے کہیں اسے چوٹ نہ

لگ جائے، اسلئے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے نواسے پوتے ہیں صاف بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ گھر پر جا کر دیکھنا کہ آٹھ دس مہینہ کا بچہ جب زمین پر لیتتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کر اپنا سر رکھتا ہے اس کے اندر یہ عقل کہاں سے آئی، چھوٹا سا دس مہینہ کا بچہ ہے اور اس کے اندر اتنی عقل کہاں سے آئی اور جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت زیادہ محتاط (care) ہو کر احتیاط کے ساتھ اٹھتا ہے۔

وہ ایک ایک حرکت اپنے آپ کو سنبھال کر کرتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو اسکی حفاظت کے لئے مقرر فرمادیا ہے جو اسکی حفاظت کرتے ہیں اسی لئے جب وہ بچہ گرتا ہے تو فرشتہ اسکی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا اکسڈنٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اس کی زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جوان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، عورت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔

## حفاظت کا مدار اعمال صالحہ پر ہے

میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی حفاظت فرماتے ہیں لیکن یہ حفاظت کا معاملہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ بندہ فرشتوں کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے، اور انکی رضاوائے اعمال کرتا ہے، ایک آدمی نے رات کو سوتے وقت ایسے الکرسی پڑھلی، اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیدیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتے اس کی چار پائی اور اس کے بیٹد کے چاروں طرف سے آکر کھڑے

ہو جاتے ہیں، اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں، موت کے سوا دوسرا کوئی مصیبت اس کو نہیں چھو سکتی، یعنی کہ موت کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کی حفاظت نہ ہوتی ہو۔

## ہماری حفاظت نہ ہونے کی وجہ

آپ کہو گے کہ ہم پر تو کتنے حالات ہیں ہماری کہاں حفاظت ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو ویسا ماحول نہیں فراہم کیا جیسا وہ چاہتے ہیں ان کا دل لگنا بھی تو شرط ہے ہم گناہ کریں گے تو ان کا دل نہیں لگتا اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ، **إِنَّ الْمُلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلُّ بَرْأَةٍ وَلَا صُورَةٍ وَلَا جُنْبُ**، جہاں فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنا ہے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی تصویر ہے یا کوئی ناپاک آدمی پڑا ہوا ہے تو فرشتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں فرشتے اس جگہ سے بھی چلے جاتے ہیں جہاں پیاز کی بدبو ہو یا جہاں کوئی ناپاکی ہو۔

## واقعہ

آپ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے نیچے پیشاب کا کٹورا پڑا رہ گیا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کتنے کا بچہ پڑا رہ گیا تھا اس زمانہ میں بیت الخلاء نہیں تھے، دور تک جانا پڑتا تھا اس لئے آپ ﷺ نے ایک برتن بنارکھا تھارات میں جب زیادہ ضرورت پیش آتی تھی حضور ﷺ اس میں پیشاب فرمائیتے تھے، اور صبح خادم اس کو پھینک دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ وہ پیالہ پڑا رہ گیا

کسی کی اس پر نظر نہیں گئی تو جریئل نے آنابند کر دیا۔

اور حضور ﷺ کو طاقت وحی سے ملتی تھی ہم کو تو طاقت کھانے پینے سے ملتی ہے مگر آپ ﷺ کو وحی سے طاقت ملتی تھی، علامہ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے پاس حضرت جبریلؑ پینٹا لیس ہزار مرتبہ تشریف لائے، اسی لئے مدینہ منورہ میں ایک دروازہ ہے جس نام ہے باب جبریل، اس کو باب جبریل اسی لئے کہتے ہیں کہ جبریلؑ امین کی آمد اکثر دیشتر و ہیں سے ہوا کرتی تھی، دو تین دن تک حضرت جبریلؑ آئے ہی نہیں۔ حضور ﷺ کو فکر دامن گیر ہوئی کہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے، میرے جبیب کا کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے، اور لوگوں نے بھی طعنہ دینا شروع کر دیا کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس وحی بھیجتا ہے اب وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضور ﷺ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، ایک مرتبہ پلنگ کے نیچے نظر گئی تو دیکھا کہ یہاں تو پیشاب پڑا ہوا ہے اور ایک روایت کے مطابق کتے کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو لیجا کر پھینک دیا چکنے کی دریتی کہ حضرت جبریلؑ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اللہ کے رسول ﷺ نے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے تھے حضرت جبریلؑ نے فرمایا کہ، **نَحْنُ مَعْشِرُ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا جُنْبُّ،** ہم فرشتوں کی جماعت کو ایسی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم ایسے گھر میں نہیں آتے ہیں جہاں کوئی نایا کی ہو یا کوئی تصویر ہو یا کوئی کتنا ہو۔

ہم نے فرشتوں کو ماحول نہیں دیا

اب ہم دیکھیں ہمارا ظاہر تو گندہ ہے ہی، ہمارا باطن بھی ناپاک ہے ہمارا  
دل ناپاک ہے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لئے گندگیاں، کدو رتیں غیبت

چغلی، مال اور دولت کی محبت اور اس طرح کی برائیاں عام ہیں، مال کمانا برا نہیں ہے لیکن اس کی محبت کو دل میں بسانا برا ہے جب اتنی ساری برائیاں اس میں موجود ہیں تو فرشتے کیسے آئیں گے؟ فرشتوں کو آب و ہوا اس آئیگی تو ہی فرشتے آئیں گے ورنہ نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی ملٹری کہیں جاتی ہے وہاں کی آب و ہوا ان کے مزاج کے موافق ہوئی تو ٹھیک، ورنہ ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے، ہم نے فرشتوں کو وہ ماحول ہی نہیں دیا جس سے فرشتے ہمارے قریب آئیں ہم اللہ کے رسول ﷺ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو فرشتے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہاں میں رہ سکتا ہوں کوئی آدمی نمازی ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے خود بخود آ جاتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ، مَاجْتَمِعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتَلَوَّنَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارُ سُونَةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ۔ کہ جہاں کہیں بیٹھ کر کوئی قوم اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتی ہے اس کی کتاب کو سمجھاتی ہیں تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔

## فرشتے دین کی جگہ آتے ہیں

اگر آدمی استقامت کے ساتھ اللہ کا ہو جاتا ہے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اس پر فرشتے نازل ہونگے چوبیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، انَّ الَّذِينَ قَالُوا ارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس مجلس

کو ڈھانپ لیتے ہیں، پتہ چلا کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے خود گھر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے رب مان لیا اور پھر وہ اس پر مجھے رہیں تو ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا الہام کرتے ہیں یہ کہکر کہ تمہیں گھبرا نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور کیسے عجیب و غریب طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **نَحْنُ أَوْلَيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ**، کہ ہم تمہارے قریب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ، **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا**، کہ اللہ متقویوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو بڑا انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بتلا دیا، **وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ** کہ دنیا میں تم جس چیز کا بھی دعویٰ کرو گے جس چیز کی بھی تم خواہش کرو گے وہ سب تمہیں مل جائے گا اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہو گی **نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ**،

## فرشتوں کی طاقت

اور فرشتوں کے پر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ دکھلایا اس کے علاوہ حضرت جبریلؑ کسی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے اکثر ویژت حضرت دحیہ کلبیؓ کی شکل میں آیا کرتے تھے، ان کے بازو بہت بڑے بڑے تھے طائف کے سفر میں فرشتوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو پوری طائف بستی کو اپنے بازووں میں پیٹ لیں مگر اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اسی طرح قوم لوط نے جب برعے اعمال کئے تو فرشتوں نے قوم لوط کی پوری آبادی کو اپنے پر کے کونے پر اٹھایا تھا۔

بہر حال فرشتوں کی اس مدد کو حاصل کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، قرآن پاک نے دوسری جگہ اور واضح انداز میں کہا کہ، وَإِنَّ عَلِيًّا كُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ، کہ تمہاری حفاظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک طرف فرشتہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان ہوتا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نماز کو بگاڑ دے لیکن فرشتہ اس کو دھنکار دیتا ہے فرشتے کی طاقت کے سامنے شیطان کی طاقت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، شیطان ڈر جاتا ہے لیکن وہ فرشتہ اس کو کب ہٹائے گا جب کہ فرشتہ وہاں موجود ہو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہی نہیں، اس لئے کہ ہم لوگ گندگیوں میں پڑے رہتے ہیں پیشتاب سے ہم لوگوں میں حفاظت نہیں، ہمارے منہ میں سے بدبو آتی ہے۔

### ایمانی پا اور رعب پیدا کرتا ہے

مسواک کا حکم اسی لئے ہے کہ فرشتوں کو سکون ملتا ہے اور مسجد میں خوبیوں کے ساتھ آنے کا حکم اسی لئے ہے کہ فرشتوں کو اس کے ذریعہ سکون ملتا ہے ان کو خوبیوں سے خوشی ہوتی ہے، اور جب فرشتہ کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ ایک آدمی نہتہ ہے، اس کے پاس کوئی اوڑا نہیں ہیں، لیکن فرشتہ اس کے حفاظت میں ہیں، دنیا کی مجال نہیں کہ اس کا بال بانکا کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، اور اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب اسی

وقت ڈالتا ہے جب آدمی کے ایمان کا پاور زیادہ ہو، اور سامنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اس وقت رعب ڈالتا ہے جب کہ سامنے والے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے، سَنُّلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا  
بِاللَّهِ، قرآن پاک کی روشنی میں یہ ایک عجیب و غریب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی بہادر نہیں ہو سکتا جو مون نہ ہو بلکہ مون بہادر ہوتا ہے، مون سامنے سے حملہ کرتا ہے جبکہ غیر مون پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اوپر سے بم بر ساتے ہیں، وہ زمینی جنگ کبھی نہیں کریں گے، اس لئے کہ انہیں ڈر لگتا ہے قرآن پاک نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا کیا حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی برکت سے ان کے اندر کتنی زیادہ بہادری پیدا فرمائی۔

## ایمان مضبوط کریں

آج ہم اپنے اندر بھی اسی ایمان کی برکت سے بہادری پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اس لئے کہ حدیث پاک میں اعلان ہے کہ، مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے ذہن و دماغ پر کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہو گا یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول ﷺ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کوئی سکون سے سفر نہیں کر سکتا تھا لیکن جب حضور ﷺ کا تشریف لائے اور ایمان کی اہر کو آپ نے پورے جزیرہ العرب کے اندر پھیلا دیا اسی کا

نتیجہ تھا کہ ایک عورت نے تن تھا در دراز کا سفر کیا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے مال کی طرف لپچائی نظریں اٹھاتا تھا اسلام تو امن سکھاتا ہے اسلام سلامتی سکھاتا ہے جس کو فرمایا،،**فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَامْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ**. عبادت کرو کعبۃ اللہ کے رب کی جس نے تمہیں کھلایا اور خوف سے تم کو نجات دی۔

### ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہو گا

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کے لئے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو ہماری باری باری حفاظت کرتے ہیں اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ**، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دے، ہمیں دنیا کے نقشوں سے نکل کر خالق کے نقشوں میں کامیابی تلاش کرنی پڑے گی، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی قوم اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں سہارا تلاش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ، وہیں سہارا تلاش کرو، جہاں تم تلاش کر رہے ہے تھے جب کوئی قوم خود اپنی حالت کو بدلتی ہے برائی کے راستے سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلي  
نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

اور خدا تعالیٰ نے ایک صاف اعلان کر دیا کہ **وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً افْلَامَرَدَ لَهُ،** جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

## اللَّهُ تَعَالَى انسان سے بہت قریب ہیں

اللَّهُ تَعَالَى انسان کے بہت قریب ہیں بلکہ نویں پارہ میں تو اللَّهُ تَعَالَى نے فرمایا  
 کہ، إِنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ، ایک انسان ہے اور ایک اس کا دل ہے  
 دونوں جڑے ہوئے ہیں انسان اور دل ایک ہی ہیں لیکن قربت کو بتلانے کے لئے اللَّهُ  
 تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان اور اس کے دل کے درمیان حلول کرتے ہیں اس کو مثال سے  
 سمجھاؤں کہ ایک کاغذ کو جب دوسرے کاغذ کے ساتھ چپکانا ہوتا ہے تو درمیان میں گوند  
 لگاتے ہیں تاکہ چپک جائے اب آپ بتائیے دونوں کاغذ کے درمیان قریب کون ہے  
 کاغذ ہے یا گوند؟ گوند ہے، بس اسی طرح سمجھ لجئے کہ انسان کے دل اور انسان کے  
 درمیان اللَّهُ کی ذات رہتی ہے انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کام سو فیصد  
 کروں گا لیکن وہ نہیں یہ سوچنا کہ بیچ میں اللَّهُ کی طاقت کا رفرما ہے، حضرت علی رضی اللَّه  
 تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللَّهُ تعالیٰ کو کیسے پہچانا فرمایا کہ، عَرَفْتُ رَبِّي  
 بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ -

کہ میں نے پکے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللَّهُ تعالیٰ کو پہچانا ہے، کبھی کبھی انسان پکا ارادہ  
 کر لیتا ہے کہ سفر کرنا ہے پیسے بھی تیار ہے، گاڑی بھی تیار ہے، صحت بھی ہے، لیکن آدمی  
 سفر نہیں کر پاتا ہے، اس لئے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کا رفرما ہے۔ یہ اللَّهُ کی طاقت ہے  
 بلکہ ایک روایت میں آیا کہ، إِنَّ الْقَلْبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقْلِبُهَا  
 کیف یَشَاءُ، انسان کا دل اللَّهُ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے اللَّهُ اس دل کو جدھر چاہے  
 گھماتے ہیں جیسے کہ قلم کوئی دو انگلیوں کے درمیان پکڑے تو وہ اس کو جیسے چاہے گھماتا ہے

کبھی اور پر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کرے گا اللہ تعالیٰ انسان کی اتنی ہی حفاظت کرے گا، اور ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کی حفاظت کے وعدے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے لئے رضا و مغفرت کے وعدے ہیں۔

## آیة الکرسی کی برکت

یہی انسان رات میں سوتے وقت آیۃ الکرسی چاروں قل پڑھ کر سوئے تو موت کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ رات میں اس کے قریب آئے، اور یہ چیز خود حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی حضرت ابو ہریرہؓ کو حضور اقدس ﷺ نے کسی جگہ پر انانج جمع کرنے لئے بھیجا تھا حضرت ابو ہریرہؓ جمع کرتے تھے اور رات میں کوئی چوری کر کے چلا جاتا تھا ایک دن ہوا، دودن ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ ایک مرتبہ جا گے وہ اس کو پکڑ لیا۔

اس نے کہا کہ تم مجھے محمد کے پاس لے جاؤ گے میری حالت بری ہو گی تم مجھ کو چھوڑ دو میں تم کو ایک تعویذ بتلاتا ہوں اور وہ ایسا تعویذ ہے کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو میں تو کیا مجھ سے بھی بڑا چور تمہارے قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ تعویذ کیا ہے اس نے کہا کہ آیۃ الکرسی پڑھ کر سویا کرو اس لئے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ آیۃ الکرسی میں ایک آیت ہے، لا تَأْخُذْهُ سِنَةً وَلَا نَوْمًا، کہ اے اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے تجھے کبھی نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا تو ہر دم میری حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے جیسا تو نے مجھ پر بھروسہ کیا میں تیرے بھروسے پر پورا اتروں گا اللہ تعالیٰ اس

کی حفاظت فرماتے ہیں میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ ہر دم ہماری حفاظت کرتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو ہر دم فرشتے والے ماحول میں رہنا چاہیے۔

### ذکر اللہ کی عادت بنا سکیں

اللہ کا ذکر کریں دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی وابستہ ہے اور ذکر یہ ہے کہ آدمی صبح شام اللہ کو یاد کرے اس کی تسبیحات کو گنگنا سکیں، تیرا کلمہ پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله، والله اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، پڑھیں۔

بلکہ ایک روایت میں تو لاحول ولا قوۃ الا با الله کو جنت کا خزانہ کہا گیا اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجالانا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سید ہے ہاتھ سے کام کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، بلکہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ تمام عبادات کی مشروعیت اللہ کی یاد کے لئے ہی ہوئی ہے، کوئی عبادت اگر ایسی ہو کہ اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو پیکار ہے، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اقِمِ الصلوٰۃ لِذِکْرِی، کامے موسیٰ یاد کے لئے نماز قائم کرو، تسبیحات کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں،، استغفر اللہ استغفر اللہ ، کہیں، پورا استغفار اس طرح ہے،، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ إِلَيْهِ ، اور ایک سید الاستغفار بھی ہے،  
**اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ**

وَوَعِدْكَ مَا أُسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہی میر ارب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جتنا مجھ سے ہو سکے میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اس گناہ کے شر سے تیری پینا چاہتا ہوں جو میں نے کیا، اور میں اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں، تو مجھے معاف فرماء، اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس استغفار کو کثرت سے پڑھے اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔

## پاک صاف رہیں

اسی طرح ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پاک رہنے کی آدمی ہر وقت کوشش کرے اللہ کے بنی ﷺ نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے پاک صاف رہنا بھی ایمان ہے، آج ہمارا یہ حال ہے کہ گھر گندے ہیں کپڑے گندے ہیں، بہت سے لوگ گندے کپڑے پہنٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سادگی ہے، یہ غلط بات ہے، اس لئے کہ سادگی صفائی کو مانع نہیں ہے، آدمی صاف سخرا رہ کر بھی سادہ مزان رہ سکتا ہے، آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ جو علاقہ جتنا گندہ ہوتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، پلانگ کاؤنٹی مسلمانوں کے علاقہ میں بہت کم آتا ہے، اس لئے کہ ہم صفائی نہیں رکھتے ہیں، اور میرے بھائیو جتنا ہو سکے باوضور ہے، اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی مستقل برکتیں ہیں، الہامات ہوتے ہیں۔ عبادات کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور اگر غسل کی نوبت آئے تو فوراً غسل کر لے کبھی کبھارتا خیر ہو جائے تو ایک بات

ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ رات بھرنا پاکی کی حالت میں پڑے رہے، اگر اس درمیان میں موت آگئی تو آدمی اس دنیا سے ناپاک جاتا ہے، اور اگر وہ ناپاک ہی گیا تو ناپاک روح کو لینے کے لئے جنت کے فرشتے کیسے آئیں گے اپنے گھروں میں بھی پاک رہنے کی تلقین کرو، بچوں کو بھی پاک رکھو، گھروں میں بد بونیں ہونی چاہیے، ظاہری او باطنی بدبو سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اگر بدبو ہوتی ہے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، اور شیاطین خوش ہوتے ہیں، اسی لئے تو قرآن پاک نے کہا کہ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو لوگ پاک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو مقریبین میں سے بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف رہنے کی اور اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَبَارِكَ وَسَلَمَ  
وَأَخْرُدَ عَوَانًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

## افتباں

پارہ نمبر پانچ کے سورہ نساء میں قرآن کریم کہتا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد ﷺ یہ صحابہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتوی پوچھ رہے ہیں، عورتوں کے مسائل کو اسلام نے آتی اہمیت دی کہ ان کے بارے میں فتوی حضور ﷺ سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن فتوی بتا رہا ہے اللہ، عورتوں کی قیمت کا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فتوی دے رہا ہے عورتوں کے بارے میں، پتہ چلا کہ اسلام میں عورتوں کی فکر کی گئی ایک مقام پر فرمایا کہ۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اعلان فرمایا کہ میں کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تعلیم نسوال کی اہمیت اور اس کی برکتیں

حضرت کا یہ خطاب عام شہر جالنہ میں بروز جمعرات بعد نماز عشاء بتارتھ ۲۵ نومبر ۲۰۱۰ کو مدرسہ عربیہ فیض القرآن و مدرسہ عربیہ فاطمۃ الزهراءؑ کے افتتاحی پروگرام کی مناسبت سے ہوا تھا، جس میں حضرت والانے با وجود علالت کے طویل سفر کی صعوبت برداشت کی اور ایک جامع خطاب فرمایا جس کا تاثر شہریوں پر کافی دنوں تک چھایا رہا۔

الحمد لله نحمدہ و نستعينہ و نستغفرہ و نومن به و نتوكل علیہ  
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهدہ اللہ  
فلا مضل له ومن یضلله فلا ها دی له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ  
لا شریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا و مرشدنا و قائدنا و معلمنا  
محمد عبدہ و رسوله صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و علی الہ  
واصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک و سلم تسليما کثیرا کثیرا

،اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ،إنَّ  
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِلَاتِ وَالْقَاتِنَاتِ  
 وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاسِعِينَ  
 وَالْخَاسِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ  
 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرَاتِ  
 أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ،وقالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا  
 أَنفُسَكُمْ وَآهَلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ،صدق الله العظيم  
 وصدق رسوله النبي الامي الكرييم ونحن على ذالك لمن الشاهدين  
 والشاكرين والحمد لله رب العالمين :..

معزز اساطین علم وفضل علماء کرام، قابل قدر مفکرین ملت اسلامیہ، بزرگان  
 دین نوجوان بھائیو، اسلامی تابناک مستقبل کے درخشندہ ستارو، جو مجھے معصوم بچوں کی  
 شکل میں نظر آ رہے ہیں اور پس پرده بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام

### لطیفہ

اس سے پہلے جانہ میں میری حاضری ایک مکتب کے افتتاح کے سلسلہ میں  
 ہوئی تھی اسی وقت اس ادارہ کے ذمہ داروں نے تاریخ لی تھی میں اس وقت وعدہ کر  
 چکا تھا، پھر بقریعید کے بعد مسلسل کچھ اسفار مزید کچھ مصروفیات رہی، جس کے نتیجہ میں  
 بیماریاں لاحق ہونے کی بنا پر میں یہ چاہ رہا تھا بلکہ سوچ لیا تھا کہ اپنا یہ سفر ملتوی کر دوں

مگر ہمارے شاگردوں نے بہت اصرار کیا اور بطور لطیفہ کے یہ بات کہوں جس سے شاید میری طبیعت بھی کھل جائے اور آپ کو بھی اس میں کچھ لطف اندو زی ہو، کہ دنیا میں تین ہٹیں تین ضدیں ایسی ہیں جو کسی بھی طرح پوری کرنی پڑتی ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی طرح اپنی ضدیں پوری کروائے رہتے ہیں، استری ہٹ، باڑ ہٹ اور راج ہٹ، استری ہٹ یعنی عورت کی ضد، عورت کسی بھی طرح اپنی ضد پوری کروائے رہتی ہے، وہ اگر چاہے تو حکومت کو اجاڑ دے اور اگر وہ چاہے تو حکومت کو سنوار دے۔

اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کو اسلامی ضد منانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور دوسرا ہٹ بادشاہ کی ہوتی ہے بادشاہ جو ٹھان لیتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے وہ اگر یہ کہے کہ مجھے یہ عمارت گردانی ہے وہ اگر یہ کہے کہ مجھے یہ پورا شہر اجاڑ دینا ہے تو پھر وہ اپنی ضد پوری کر کے رہتا ہے چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے اسے راج ہٹ کہتے ہیں، اور تیسرا ضد ہے جس کا میں آج شکار ہوا ہوں۔ وہ ہے باڑ ہٹ یعنی بچوں کی ضد، بچوں کی ضد بھی پوری کرنی پڑتی ہے، ان بچوں نے اتنا اصرار کیا اور کہا کہ مولانا دوا لیجھے لیکن آئیے بھر حال یہ بچوں کی ضد ہے، بچے اپنی ضد پوری کروائے رہتے ہیں۔

### لطیفہ

اکبر بادشاہ کے یہاں ایک حاضر جواب وزیر یبربل تھا، یبربل کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا بہت پیارا خوبصورت بچہ تھا اور وہ بچہ اکبر کو بہت پسند تھا، اکبر نے حکم صادر کیا کہ یہ بچہ جو بھی مانگے جو بھی مطالبہ کرے اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا چاہے تم مجھے

سے اس کی قیمت وصول کرو یہ بل اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا ایک مرتبہ وہ بچہ بہت رورہا تھا یہ بل اس کو نندھے پر بھٹا کر لایا اکبر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس بچہ کا ایک آنسو بھی مت گرنے دینا اس کی ہر ضد پوری کرنا یہ بچہ آج کیوں رورہا ہے یہ بل نے کہا با دشاد سلامت یہ بچہ صبح سے ضد کر رہا ہے اور اس کی ضد ایسی ہے کہ کوئی اس کو پورا کرہی نہیں سکتا وہ یہ ٹھان کر بیٹھا ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو گزار کر بتاؤ، پلاسٹک کا ہاتھی بھی سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گز ر سکتا چہ جائیکہ بڑا ہاتھی اس میں سے گزرے تو یہ باڑھت بچہ ضد ہوتی ہے جس کے سامنے اچھوں اچھوں کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔

## اللہ تعالیٰ مصلحین کو پیدا فرماتے ہیں

خیر میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے حدیث پاک میں جناب نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مَا يَنْهَا مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا، کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو دین اسلام کی تجدید کرتے رہیں گے دیکھئے! سرکار حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اس امت کو ایک ڈھارس بندھائی، کہ میری امت پر گمراہیوں کا دور تو آئے گا، جہالت کا ایک دور آئے گا جہالت کی آندھیوں سے میری امت وقتاً فوقتاً گزرتی رہے گی، لیکن لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتٍ عَلَى الصَّلَالَةِ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اب دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی بلکہ جب اس کے اندر گمراہی جنم لے گی تو ہر سو سال پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ

پیدا فرمائیں گے، جو دین کی ان حقیقوں کو واضح کریں گے جن پر پردہ پڑھکا ہے، ان کی تجدید کریں گے علماء حضرات توجہ دیں کہ، مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا، میں مَنْ عَمُومَ کے لئے ہے، بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ، مَنْ، سے مراد کوئی ایک ہی مجدد ہے یہ غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر پیدا کرتے ہیں ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ، مَنْ وَمَا لِلْعُمُومِ وَيَحْتَمِلُنَّ الْخُصُوصَ، دیکھو دین کو بھی مٹایا نہیں جاسکتا، اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ، مَنْ يُحْيِي لَهَا دِينَهَا کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائیں گے جو دین کو زندہ کریں گے ایسا نہیں فرمایا، اس لئے کہ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ دین ختم ہو جائے گا، اور وہ لوگ آکر اس دین کو زندہ کریں گے جب کہ دین کبھی مرنہیں سکتا، بلکہ فرمایا کہ، مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا، کہ وہ لوگ اس دین پر پڑے ہوئے غبار کو ہٹائیں گے جو پردہ پڑ گیا ہے اس کو ہٹائیں گے۔

اور ایک بات یاد آئی کہ سنت کو مٹایا جا سکتا ہے، اسی لئے وہاں پر فرمایا کہ، مَنْ أَحْيَ سُنْتَى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ أَجْرٌ مِائَةٌ شَهِيدٍ، سنت کے بارے میں فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس میں زندہ کرنے کا لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کو مٹایا جا سکتا ہے۔

لیکن جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تکمیل فرمائی، اس دین کو کوئی مٹایا نہیں سکتا، جس کو اس طرح فرمایا کہ، أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس

دین کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، ہاں بعض لوگ اس دین پر پرده ڈال کر اس پر میل کچیل لگا کر اس پر بدعتوں کا زنگ لگا کر اس پر کچھ ناشائستہ حرکتیں، خرافات تحریفات تزویریات اور ضلالت کے پر دے چڑھا کر اس دین کو اندر دبانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کچھ چندہ افراد کو پیدا فرماتے رہیں گے جو اس دین کو نیا کرتے رہیں گے، پاسپورٹ کو رینیو کرنا پڑتا ہے، لائننس کو بھی رینیو کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس دین کو رینیو کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہے گا، ہر ملک میں ہر شہر میں ہر دیہات میں، ہر کنٹری میں ہر سماج میں اور ہر معاشرہ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کے شہر جانہ کو، کہ ماضی قریب کے کچھ سالوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب اور چندہ افراد کو دین کی تجدید کی فکر نصیب فرمائی، کسی نے مسجد کی لائیں سے فکر کی، کسی نے مکتب کی لائیں سے فکر کی، کسی نے تعلیم نسوان کی لائیں سے امت کے اندر ایک جا گروتی اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے یہ اس کا فضل اور کرم ہے۔

## معاشرہ کی اصلاح عورتوں سے ہوتی ہے

آج کا جو پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں یہ اصلاح معاشرہ کا مغز ہے آدم برسر مطلب اب میں اپنے مطلب پر آ رہا ہوں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہو گا کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ کی ابتداء عورتوں سے ہوتی ہے، اور معاشرہ کی اصلاح عورتوں سے ہوتی ہے معاشرہ عورتوں سے ہی بنتا ہے اور اس کا ثبوت یہ کہ قرآن پاک نے لفظ

معاشرہ عورتوں کے مضمون کے سلسلہ میں ہی ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوْهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ تم اچھے طریقہ سے رہو، عورتوں کے ساتھ کی معاشرت  
ان کے ساتھ کا سلوک، اور ان کے ساتھ کا برتاؤ اچھے طریقہ سے کرو، علماء جانتے ہیں  
عربی میں خاندان کو عَشِيرَۃُ بولا جاتا ہے، اس کی جمع عَشَائِرُ آتی ہے اور خاندان  
عورت کے بغیر نہیں بن سکتا۔

اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام خلافت کو چلانے کے لئے دنیا میں حضرت آدم  
کے ساتھ ساتھ حضرت حوا کو بھی اتارا، اور باوا کو ڈھونڈھنے جانا پڑا تھا دادی اماں کو  
اور عرفات میں ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی اسی لئے اس میدان کا نام عرفات  
ہے عربی میں عَرَفُ، کامیابی پہچاننا ہوتا ہے، اور دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں  
جبل رحمت پر ہوئی تھی اور یہ سب کے لئے رحمت بنی کہ اس جبل رحمت پر دادا دادی کی  
ملاقات ہوئی تو یہ پوتروں کا وجود ہوا، پھر دادی کا انتقال جدہ شہر میں ہوا، اسی لئے اس  
شہر کا نام جدہ ہے، عربی میں جَدَّهُ کہتے ہیں دادی کو، اس لئے کہ وہاں دادی جان  
ہے، ہم اور آپ تو کہتے ہیں جِدَّهُ جِيم کے کسرہ (زیر) کے ساتھ، یہ غلط ہے صحیح لفظ  
ہے جَدَّهُ، جَدَّہ کا معنی ہے دادا، اور جَدَّہ کا معنی ہے دادی۔

## عورت پڑھی خاندان پڑھا

بہر حال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ کی ابتداء عورت سے ہوتی ہے،  
عورت کے بغیر معاشرہ کا تصور نہیں ہو سکتا، آپ کتنے ہی بڑے مالدار بن جائیں کتنے  
ہی پیسے بنالیں، کتنا ہی بڑا مکان بنالیں لیکن انسان کے دل میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے

ہے، انسان کے دل میں چاہت ہوتی ہے خاندان کی، انسان کے دل میں سماج کی چاہت ہوتی ہے، اور اس سماج کے بنانے کے لئے سب سے بڑی ضرورت عورت ہے عورت کو مرد کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، مرد عورت کے ساتھ جڑے گا تب جا کر اولاد پیدا ہوگی، نسل پیدا ہوگی اور پھر ایک معاشرہ کی تشکیل دی جائیگی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائیگی، اب صحیبے کے معاشرہ کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت کی اصلاح نہ ہو، اس لئے کہ عورت سدھری تو پورا معاشرہ سدھر گیا، اور عورت بگڑی تو پورا معاشرہ بگڑا۔

ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہیں ان کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مرد کو پڑھایا لڑکے کو پڑھایا تو آپ نے ایک ہی منبر کو پڑھایا، ایک ہی فرد کو پڑھایا، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو پڑھایا تو گویا آپ نے دو خانداوں کو پڑھایا۔ ایک تو اس خاندان کو جس خاندان میں اس نے جنم لیا ہے جس خاندان میں اس کی نشوونما ہو رہی ہے اور پھر یہی عورت بہوبن کر جائے گی تو اس خاندان کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنے گی پھر اس کا نام ہوم منستر کا دیا جائے گا اور منستر کی سب کو ماننی پڑتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا استری ہے، عورت اگر ضد پر آ جائے تو مغل بادشاہوں کو اپنی سلطنت بھی کھو دینی پڑے، تاریخ جانے والے حضرات جانتے ہیں۔

## عورت بہت کچھ کر سکتی ہے

اپنی ماں بہنوں کی طرف میں اپنا رخ سخن متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ ماں بہنوں میں وہ زبردست پاور اور وہ زبردست صلاحیت عطا کی ہے کہ خطرناک سے خطرناک مرد کی عقل کو اپنے تابع کرنا آپ عورتوں کا کمال ہے آپ بڑے سے بڑے مرد (شہر) کو اپنے تابع کر سکتی ہیں اور اس طاقت کو اس ذاتِ کامل، عقلِ کامل کے مالک نے بھی تسلیم کیا ہے جس کو دنیا خواجہ کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول ﷺ کے نام مبارکہ سے جانتی ہے، جن کے صدقہ طفیل اس صفحہ ہستی کا وجود ہوا، انہوں نے بھی آپ کی اس طاقت کو تسلیم کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ، مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذَهَبَ لِلْبَرَّ جُلِّ الْحَادِمِ مِنْ إِحْدَائِكُنَّ، کہ عورتوں کے پاس اتنا زبردست پاور اور طاقت ہے کہ مضبوط قوتِ فیصلہ لے کر بیٹھنے والے آدمی کی عقل کو بھی وہ اپنے تابع کر سکتی ہے، حضور ﷺ کے الفاظ کی جامیعت اور بلاغت پر غور کیجئے۔ کہ آپ ﷺ نے اس حدیث پاک میں، لُبٌّ، کالفظ استعمال فرمایا اور لُبٌّ کا معنی گودا اور مغز ہوتا ہے، پھل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چھلکا پھیک دیا جاتا ہے، اصل اندر کا مغز ہوتا ہے، سر کے اندر بھی بھیجا ہے۔

اور ایک چھوٹا بھیجا پیچھے ہے اور بڑا دماغ آگے ہے، اور چھوٹا دماغ زیادہ قیمتی ہے، اسی لئے اگر کوئی آدمی سیدھا گرے تو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا کہ اوندھا گرنے میں ہوتا ہے، اور ویسے بھی چھوٹے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آپ مارکیٹ میں جاؤ تو بڑے لوگوں کے کپڑوں کا دام اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ چھوٹے بچوں کے کپڑوں کا دام ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی دوائیں بھی مہنگی ملتی ہے۔ بہر حال۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں

کہ ایک بڑا دماغ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا دماغ ہوتا ہے، اس کو عربی میں لب کہتے ہیں اور حضور ﷺ نے آگے فرمایا الرَّجُلُ الْحَادِمُ مطلب یہ ہو گا کہ بہت زیادہ دماغدار کی عقل کو بھی اپنے تابع میں کر سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے، الحادِم،، کا ترجمہ کیا ہے پختہ تدبیر والا مرد، سب کا خلاصہ یہی ہے۔

## عورتیں اپنی طاقت کا استعمال صحیح کریں

میں اپنی ماں بہنوں کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ ماں بہنوں کو اتنا بڑا پا اور دیا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے عقلمند شوہر کی عقل کو اپنے تابع کر سکتی ہیں، اگر آپ اپنی اس صلاحیت اور طاقت کو مرد کے دیندار بنانے میں استعمال کریں گی تو اس کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس مرد کے ذریعہ اس کی زندگی اس کے کاخ انداز ان اس کی نسل کی اصلاح ان کی تعلیمی ترقی کی زندگی اور جتنی بھی اس کے ذریعہ اصلاح ہو گی ان سب کا ثواب آپ کے حصہ میں آئے گا۔ مرد حضرات ناراض نہ ہوں میں آپ ہی کی بات آپ کے اوپر لگا رہا ہوں کہ شادی کا موقع ہو، آپ نے بہت بڑا منڈپ لگایا ہو، کئی سو لوگوں کو دعوت دی ہو، اور بہت خرچ کیا ہو، اور میرے جیسا ایک عالم آ کر آپ کو یہ کہے کہ جناب اتناسب کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے وغیرہ وغیرہ۔

تو یہ مرد جواب دیتا ہے کہ مولوی صاحب! ساری باتیں برابر ہیں لیکن گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں، گھر کی عورتوں کی وجہ سے اتناسب کرنا پڑ رہا ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری ماں بہنیں کان کھول کر سینیں کہ آپ کی بدنامی یہ حضرات اثر

نیشنل لیول پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ خرچ کیا جائے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈتبے بجا یا جائے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ویدیو شنگ کریں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہلدی وغیری کھلی جائے، لیکن عورتیں نہیں مان رہی ہیں تو میری بہت ہی معرز اور محترم ماوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی یہ طاقت مرد کے دیندار بنانے میں استعمال کریں گے تو انشاء اللہ آپ کی بدنامی تیک نامی میں بدل جائے گی۔

## مرد اور عورت دونوں برابر ہیں

اور یہ انقلاب معاشرہ میں پیدا کرنے کے لئے مردوں کا ذہن بنانے کی فکریں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں عورتوں کا بھی ذہن بنانا پڑے گا اسلام نے برابری دی ہے، اسلام نے کہیں بھی صرف مردوں کی طرف توجہ نہیں کی قرآن پاک کے صفحات کھولئے، صحابہ کرام نے باقاعدہ عورتوں کے بارے میں فتوے پوچھے، پارہ نمبر پانچ کے سورہ نساء میں قرآن کریم کہتا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد ﷺ یہ صحابہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتوی پوچھ رہے ہیں، عورتوں کے مسائل کو اسلام نے اتنی اہمیت دی کہ ان کے بارے میں فتوی حضور ﷺ سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن فتوی بتا رہا ہے اللہ، عورتوں کی قیمت کا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ، اے نبی آپ کہہتے ہیں کہ اللہ فتوی دے رہا ہے عورتوں کے بارے میں، پتہ چلا کہ اسلام میں عورتوں کی فکر کی گئی ایک مقام پر فرمایا کہ۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اعلان فرمایا کہ میں کسی کے بھی

عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسلام میں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا مرد کو دور کعت نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور عورت کو دور کعت نماز پڑھنے کا ثواب کم ملتا ہے، دونوں کا ثواب برابر، بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا اكْتَسَبُوا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا اكْتَسَبْنَ، مرد جو اعمال کریں گے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو چکایا جائے گا اور عورتیں جو اعمال کریں گی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔

## فطرتاً کچھ باتیں الگ الگ ہیں

لیکن ایک بات یاد رکھئیے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ موضوع کے لئے الگ الگ کام کے لئے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد میں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد میں قوت فکر دی، تاکہ وہ باہر کا کام کا حسنہ جائے، وہ کمائے اور وہ اپنی قوم کی فکر کرے، اور عورت کی صفت قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ، فَالصِّلْحُ قَانِتَاتٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبرداری کرتی ہوں، یہاں ایک بات سن لیں کہ بعض لوگ ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہوں، اس طرح کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ترجمہ یوں ہوگا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو تمام افراد متعلقہ کی فرمانبردار ہوں، اس لئے کہ قانتات مطلق ہے اس کے بعد کوئی قید وابستہ نہیں ہے اس لئے اس کو عام رکھا جائے گا، اب اصل ترجمہ سینیں کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی فرمانبرداری کریں اور اپنے شوہر کی بھی فرمانبرداری کریں، اور میں

تو حاشیہ بڑھاتا ہوں کہ شوہر کی فرمانبرداری تب کرے گی جب کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر گی، اس لئے کہ شوہر کی فرمانبرداری کرنے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے جو عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے وہ شوہر کی فرمانبردار کبھی کبھی نہیں ہو سکتی۔

## عمل کے لئے علم ضروری

اب اس آیت کو میں اس مکتب یعنی تعلیم نسوان کے اوپر چسپاں کر رہا ہوں عورت میں فرمانبرداری کی صفت بیان کی گئی اور وہ فرمانبرداری احکامات کی کرے گی اللہ تعالیٰ کی بات مانے گی، شوہر کی بات مانے گی، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اسی وقت مانے گی جب اسے علم ہو گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکام دیئے ہیں مجھ پر ایک سماج کا منبر ہونے کے ناطے اخلاقی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، جو مجھ سے میرے سماج نے بشکل امید و ابستہ کر کے رکھی ہیں، اگر عورت میں تعلیم کا زیور آئے گا تو اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ مجھے میرے شوہر کی کوئی باتیں ماننی ہیں اور کوئی باتیں نہیں ماننی ہیں، عورتوں کی کامیابی کے لئے سب سے پہلی صفت، قانینات ہے، اور قانینات کا ترجیح ہے فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور یہ عورت فرمانبرداری کرنے والی اسی وقت بنے گی جب کہ اس کے پاس احکامات کا علم ہو گا، اس کے بغیر وہ فرمانبرداری نہیں کر سکتی۔

حدیث پاک میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ، لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی فرمانبرداری نہیں کی جاسکتی، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اپنی

اولاد ہو، میری ماں بھئیں بھی سنیں اور میرے یہ معزز بزرگان دین بھی سنیں کہ عورت کتنا ہی ضد کرے لیکن اگر کسی کام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں عورت کی بات نہیں مانی جائے گی، اور عورتیں بھی سنیں کہ اگر آپ کا شوہر لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہو، لیکن آپ کا بہانہ آپ کی معدرت نہیں چلے گی کہ ہمارے شوہر منع کرتے ہیں، ہمارے شوہر پردے سے روکتے ہیں، فیشن اور بے پرڈگی کا حکم دیتے ہیں، اس لئے ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا، جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کام سے بچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فرمانبردار نہ بر اول پر بننا پڑے گا۔

## عورتوں کے نادان رہنے کا نقصان

بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہوں اور نیک بننے کے لئے احکامات کا علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ جزاً خیر دے امت کے ان افراد کو جو تعلیم نسوں کی فکر لے کر چلتے ہیں، تا کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روشناس کروا دیا جائے، یہ عورت اگر طہارت کے مسائل نہیں جانے گی یہ عورت پا کی ونا پا کی کے مسائل نہیں جانے گی، تو اپنی اولاد کو صاف تو کر سکے گی لیکن پاک نہیں کر سکے گی، اور جب پاک نہیں کرے گی تو یہ اولاد ملائکہ کی صحبت سے ملائکہ کی نگرانی سے اور ملائکہ کی حفاظت سے محروم ہو جائیگی، اور پھر یہ اولاد شیاطین کے کنٹرول میں آئے گی پھر تعویذ باندھنے سے بھی کچھ نہیں ہو گا باپوؤں کے چکر میں پڑنے سے بھی کچھ نہیں ہو گا، ملیدہ کھانے کھلوانے سے بھی کچھ نہیں ہو گا اور ناریل

پھوڑنے پھڑوانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لئے کہ آپ نے اپنی اولاد کو صاف تو کیا ہے لیکن پاک نہیں کیا، اس عورت کو اگر یہ علم نہیں ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے کپڑے پہناؤں، میں اپنے بچوں کو کیسے پاک کروں، میں اپنے بچوں کے پیشتاب اور پاخانہ کو کیسے دھو سکتی ہوں، وہ اس کو ایسے ہی ادھر ادھر کر کے صفائی تو کر دے گی لیکن پاک نہیں کر پائے گی، تصویر والا اس کو کپڑا پہنائے گی فوٹو والا اس کو ٹی شرٹ پہنائے گی اپنی بچیوں کو بغیر آستین والا فروک پہنائے گی اپنی بچیوں کو اسکرٹ پہنائے گی جب بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں پر یہ نقوش ثبت ہونگے بڑے ہونے کے بعد ان نقوش میں نفوس بنانا مشکل ہو جائے گا، اس لئے میں اپنے درد دل سے کہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں کو تعلیم دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، خدا یہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جمعہ کی شب ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھو گے تو سماج تتر اور ترس نہیں ہو جائے گا، پھر آپ لاکھ علماء پیدا کرو، لاکھ مصلحین پیدا کرو، کروڑوں مبلغین اور واعظین پیدا کرو، لیکن عورتوں میں دینداری نہیں آئے گی تو پھر سماج نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا

## عورتوں کو تعلیم دینے کے فوائد

سماج کو بنانے کے لئے عورت کو پہلے بنانا پڑے گا جب عورت بن جاتی ہے اور بہشتی زیور کے مسائل پڑھ لیتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو عالمہ بنانا ضروری ہے، لیکن اس کو مومنہ بنانا تو ضروری ہے جب وہ عورت دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھ لیتی ہے اسلام کے منشی اور اس کے تقاضوں کو سمجھ لیتی ہے تو وہ اسلام کے

مطابق عمل کرے گی، اب آپ دیکھنے شرک کی بیماری سب سے پہلے عورتوں میں ہی جنم لیتی ہے، تو ہم خرافات بدعات گمراہیاں دنیا کی محبت جس کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا، یہ ساری چیزیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں اس کی ابتداعورت سے ہوتی ہے، مرد لاکھ چاہے گا کہ اس کو سمجھائیں لیکن بات وہی آتی ہے کہ، استری ہٹ، عورت کی ضد کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ان مکاتب میں آ کر اس عورت کا ذہن بن گیا، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے، اس طرح کے چلنے والے مکاتب میں آتی ہے اور اس نے مسائل کا علم بھی سیکھا اور فضائل کا علم بھی سیکھا تو گھر جا کر یہی عورت اپنے شوہر کو فضول خرچی سے روکے گی، اپنے شوہر کو نماز پڑھنے بھیجے گی، اپنے بچوں کو دعوت و تبلیغ میں بھیجے گی۔

اپنے بچوں کو سونے سے پہلے سورتیں پڑھنا سکھائے گی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی محبت پلاۓ گی اور انبیاء کرام کے قصے اور ان کی کہانیاں سنائے گی۔ پھر آگے چل کر وہ نسل دیندار بنئے گی ماں باپ کے سکون کا ذریعہ بنئے گی پڑوسنیوں کے ساتھ اس کے جھگڑے وغیرہ نہیں ہونگے اس لئے کہ وہ پڑوسنیوں کے حقوق جانتی ہو گی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ گھر میں دین زندہ رہے گا بہر حال۔ فرمانبردار بننے کے لئے علم ضروری ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، **فَالصِّلْحُ قَانِتٌ حَفِظْ لِلْغَيْبِ**  
**بِمَا حَفِظَ اللَّهُ**، نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی فرمانبردار ہوں، اور اپنے شوہر کی بھی فرمانبردار ہوں اور آگے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی غیر حاضری میں

شوہر کے ناموس اور اس کی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، عورت اگر دیندار ہو گی تو وہ آپ کے عزت کی حفاظت کرے گی، اگر آپ سفر پر چلے گئے تو یہ عورت آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی وہ عورت کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔

## جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں

ایک بات کا انکھوں کر سنو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا وفادار نہیں ہوتا وہ دنیا میں کسی بھی صورت کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو عورت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرتی ہو آپ کو ہزار مرتبہ بھی بولے LOVE.YOU.I، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نے فرمابنبرداری نہیں کی تو اسکی وفاداری آپ کے کام نہیں آسکتی، وہ آپ کی وفادار نہیں بن سکتی، آپ بولو میں نے تو اس کو سونے کا زیور پہنایا میں تو اس کے ہاتھ میں چاند لا کر دوں گا وہ کیسے میری نافرمانی کرے گی ارے تو نے تو اس کو سونے کا زیور پہنایا ہے جس خالق نے اس کو سونے سے زیادہ قیمتی چھڑی دی ہے، اور جس خوبصورتی کی بنابر تو اس کا لکھو بنا جا رہا ہے یہ خوبصورتی بھی اسی ذات نے دی ہے جس نے اسے اتنا زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس ذات کی وفادار نہیں بنی تو تیری وفادار کتنے دن تک رہے گی؟ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسی ذات کی وفادار بنے۔ اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں کبھی فنا نیت نہیں ہے جب وہ اللہ کی فرمابنبردار بنے گی تو تجھے بھی دھوکہ نہیں دے گی اسی لئے تو نکاح کے موقعہ پر دینداری کو دیکھنے کا حکم ہے۔

## مکاتب نسوان کے فوائد

یہ عورت تمہاری وفادار بنے، یہ عورت تمہارے مال کی اور تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کرے، دنیا کی بے شماری اس کے دل میں پیوست کی جائے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کرے، انہی مقاصد کے لئے ان مکاتب کا نظام چلایا جاتا ہے، ان مکاتب کی تاسیس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی وفادار بنیں جب عورت اللہ تعالیٰ کی وفادار بننے کی تو انشاء اللہ موت تک وہ آپ کی وفادار بن کر رہے گی، وہ آپ کے تعلق سے بولے گی کہ میرا شوہر میرے سر کا تاج ہے۔ اس کو ان مکاتب میں پڑھایا جائے گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ کا حکم دیتا تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اس کو شوہر کے تابع بنایا جائیگا اس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا سکھایا جائیگا۔

اور جب ان مکاتب میں آپ اپنی ماں بہنوں کو بھیجیں گے تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جائیگا کیسے؟ اس طرح کہ مرد جب کمانے کے لئے باہر جاتا ہے تو چاہے وہ باہر کتنی ہی دیر لگائے لیکن اس کی اولاد کی صحیح تربیت یہی عورت کرے گی ورنہ ستیاناس کر دے گی اس لئے کہ اگر وہ دیندار نہ ہو تو اپنے ڈیکوریشن سے ہی باہر نہیں آئیگی، لالی، لب اسٹک، آبہرو، اور روزانہ نئے نئے کپڑے ہونگے، آج کل عورتوں میں بھی یہ عجیب و غریب بیماری آئی کہ شوہر چار ہزار روپیے کمار ہاہے، لیکن جہاں کوئی لاری آئی وہ عورت سامان لے کر رہے گی، چاہے قسط وار کیوں نہ ہو، شوہر کو حیران کرے گی

قاعدت نہیں کر سکی، قناعت کرنا اور صبر کرنا دین کے راستے سے سکھایا جائے گا یہ دنیا بڑی خطرناک ہے دنیا کی بے شانی دنیا کا پیچ پناہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا یہ سب میرے بھائیو دین کے راستے سے سکھایا جائے گا۔

ایجوکیشن کا نعرہ لگانے والے ذرا اپنے کانوں کو صاف کر کے سنیں، بہت یونیورسٹیاں بنائی گئیں بہت ایسیں سی کی ایسی تیسی ہوئی بہت ہائی ایجوکیشن دیا گیا لیکن مجھے انصاف سے بتائیے جب سے یہ ایجوکیشن رونما ہوئے ہیں تب سے ماں بہنوں کی عزتیں سلامت ہیں یا بے سلامت ہیں؟ (بے سلامت ہیں) کیوں اس لئے کے دنیا کے ایجوکیشن کو امپورٹینٹ دیدیا گیا لڑکیاں اسکوٹی لے کر کائنٹک اکٹر انک گاڑیاں لے کر سائیکل لیکر بستے اپنے کندھے پر لا دکر کالج جا رہی ہے، ماں باپ کے خواب یہ تھے کہ بچی میرے مستقبل کا ستارا بنے، لیکن ان کا جو میں میں کیا ایک عمل نہیں ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ اچھے طریقہ سے جانتے ہیں، لیکن اگر کسی لڑکی کو آپ نے مکتب کی تعلیم دی، اب اگر آپ اس کو ڈاکٹر بنا میں گے وہ جا ب اور پردہ کے بغیر نہیں جائے گی، آپ اس کو کیل بنا میں گے تو وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرے گی، آپ اس کو نس بنا میں گے تو اپنے پیشٹ (مریض) کو کسی غلط لیبارٹری کے چکر میں نہیں ڈالے گی، وہ ہمدردی کے ساتھ ایمان داری کے ساتھ پروان چڑھائے گی، نسل اسلامی کو بھی اور اپنی نسل کو بھی صحیح راستہ پر ڈالے گی۔

## سماج، عورت کی اصلاح سے ہو گا

اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی اصلاح کے بغیر سماج کی

اصلاح کی بانگ پھونکنے والے سماج کی اصلاح کا خواب دیکھنے والے اور سماج کی اصلاح کا دم بھرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، قرآن کریم نے اسی لئے عورتوں کا تذکرہ مردوں کے ساتھ ساتھ فرمایا، میں نے شروع میں جو آیات کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ بائیکسوں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اللہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

یہاں ایک بات مرد حضرات سے کہنا ضروری ہے کہ قرآن پاک نے صرف مردوں کا ہی تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے پتہ چلا کہ صرف مردوں کے کامل بننے سے سماج نہیں سدھرے گا بلکہ ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی اصلاح ضروری اور لازمی ہے، اسی لئے ہر جگہ قرآن پاک نے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، صرف آپ کے ذکر کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ کہو کہ میں تو اشراق تک ذکر کرتا ہوں، نہیں چلے گا، اس لئے کہ عورت کا بھی ذاکرہ بننا ضروری ہے، مذکورہ آیت پاک سے پتہ چلا کہ ذکر کی صفت عورتوں میں آنا ضروری ہے، سچ کی صفت عورتوں میں آنا ضروری ہے۔ الغرض یہ تمام صفات عورتوں میں آنے چاہیئے۔

## عورتیں دراقدس پر جاتی تھیں

اور اس کا ثبوت بھی ہے حضور اقدس ﷺ کے دور مبارکہ میں عورتیں دراقدس (علیٰ صاحبہ الف تھیۃ وسلام) پر مسئلہ پوچھنے جایا کرتی تھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی حضرت زینبؓ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے گئی، کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں نفل صدقہ کرنا چاہتی ہوں میرے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہے اگر میں اسی کو صدقہ کر دوں تو چلے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو صدقہ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا، حضرت عائشہؓ کے پاس کئی ایک عورتوں نے جا کر مسائل پوچھے ہیں پتہ چلا کہ عورت بھی مسئلہ پوچھ سکتی ہے، اس کے لئے بھی علم ضروری ہے۔

## مال عائشہ کا احسان عظیم

اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت پر حضرت ابو ہریرہؓ کے بعد نقل احادیث میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہؓ کا ہے، بلکہ علماء کرام اس بات میں میری تائید فرمائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی بڑا احسان حضرت عائشہؓ کا ہے، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے پانچ ہزار تین سو چھتر روایتیں نقل کی تو ان میں سے اکثر ان کی مراasil ہیں جوانہوں نے کبار صحابہ سے سن کر پھر ہم تک پہچائی ہیں، لیکن میری اور آپ کی امی کو یہ فخر اور یہ

سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم ﷺ سے سنا، بہت بڑی بات ہے، بہر حال آپ غور فرمائیں، عورتوں نے کتنا بڑا روں ادا کیا، عورتیں اتنی بڑی عالمہ ہوتی تھیں کہ حضرت علیؓ کو حضرت معاویہؓ کو حضرت ابو بکرؓ کو بہت سے مسائل دریافت کرنے ہوتے تھے تو حضرت عائشہؓ کے پاس بحثت تھے، اور وہ حدیث پاک تو آپؓ کے ذہن میں ہو گئی کہ، طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے مسلم میں تمام مسلمان شامل ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں سب داخل ہیں۔

### بے پر دگی مالی پریشانی کا باعث ہے

انتظام ضروری ہے جس سے اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، عالمہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے بنائے تو بہتر ہے اگر اس کو علم نہیں ہو گا تو ناپاک رہے گی جب ناپاک رہے گی تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے بلکہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے محروم دوں کے سامنے بھی بغیر ڈوپٹے کے رہتی ہے اس گھر سے روزی کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

دیکھئے، کونسے لوگوں کے سامنے؟ محروم لوگوں کے سامنے یعنی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹوں کے سامنے بغیر ڈوپٹے کے رہتے تو روزی کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں حالانکہ اس کا باپ ہے اس کا شوہر ہے اس کا بھائی ہے ان کے سامنے وہ سر کھلا رکھ سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈوپٹے کا حکم دیا گیا ہے جب اپنے لوگوں کے

سامنے پرداہ کا اتنا تاکیدی حکم ہے تو باہر کے نامحرم افراد سے کتنا پرداہ کرنا چاہئے اس کا اندازہ آپ لگاسکتے ہیں۔

گھر کی عورتیں بے پرداہ ہوں تو کہاں سے روزی ملے گی؟ اب مرتبہ رہو کرتے رہو، سائیکل کھینچتے رہو، گاڑیاں چلاتے رہو، فیکٹریوں میں لوم چلاتے رہو، لیکن گھر کی عورتوں کا دوپٹہ سر پر نہیں ہے تو روزی میں برکت نہیں ہوگی، اس کو کیسے پرداہ کرنا چاہئے کیسے دوپٹہ اور ڈھننا چاہئے یہ ان مدارس اور مکاتب میں بتایا جائے گا کونسے اعضاء اس کو چھپانے ہیں بدن کے کونسے اعضاء اپنے محارم کے سامنے ظاہر کرنے ہیں ان مکاتب سے سکھلا یا جائے گا، شریعت اس کو سکھلانے کی اور شریعت کے لئے اس کو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، عورتیں عموماً ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی ہیں گھر میں دوپٹہ نہیں اور حصی ہیں گلے میں لٹکا کر رکھتی ہیں، جب کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ روزی کا بنا ہوا ہے ہر انسان روزی کے مسئلہ میں پریشان ہے، روزی کے مسئلہ کا راز بھی اسلامی شریعت کے ماننے میں مضمرا ہے۔

میر بھائیو! کماتے کماتے تحک جاؤ گے محنت کرتے کرتے تحک جاؤ گے لیکن اپنی اولاد کی اپنے گھر بار کی دینی و دنیوی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسلامی شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، اسلامی شریعت کو مانا پڑے گا۔

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت وہ ذات ہے کہ جس کی زبان عالیہ سے نبی اکرم ﷺ کو ہمت ملی، آپ ﷺ کو سب سے پہلی ہمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دی تھی، ورنہ جب آپ ﷺ پر پہلی وجہ اتری تو آپ کے لئے تو یہ اتفاقی میسر تھا

اکسیڈنٹلی میر تھا جریل امین کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے تھے اور فرمایا تھا کہ، لَقَدْ  
خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي ، مجھے تو اپنے آپ پر خوف ہے، میں نے عجیب و غریب  
حالت دیکھی، اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہمت بندھائی تھی  
انہوں نے امید دلائی تھی۔

## سیرت پر عمل عزت کا ضامن ہے

اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو رسوائی سے بچانا چاہتا ہے عزت والا بننا چاہتا ہے  
تو اس کو سیرت والی صفات اپنانی پڑے گی، نمبر ایک یہ ہے کہ، اِنَّكَ لَتَصْلُ  
الرَّحِيمَ، رشتہ داری کو آپ نبھاتے ہو، یہاں ایک بات اور سنیئے کہ رشتہ داریاں زیادہ  
تر عورتوں کے ذریعہ ہی کلتی ہیں، شوہر تیار ہوتا ہے کہ بہن کی شادی میں دو چار ہزار  
روپیے کی خدمت کروں، سارا پلان بناتا ہے یہ آتی ہے اور آہستہ سے آدھا کپ  
چائے بننا کر کہتی ہے کہ اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہو گا بچے تو بھوک  
مر رہے ہیں اور آپ بڑے آگئے بہن کو پانچ ہزار روپیے دینے والے، اس طرح رشتہ  
داریاں توڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، عورت اگر ان مدرسوں میں آئے گی تو شریعت کا  
علم حاصل کرے گی، پھر آپ کو رشتہ داریاں نبھانے کی تعلیم دے گی، خاندان سے  
خاندان مل کر رہے گا، سماج میں اتفاق پیدا ہو گا، اتحاد پیدا ہو گا یا گلگت اور یک جہتی  
پیدا ہو گی، ورنہ یہ بگرتی ہے تو سارے سماج کو لے ڈوبتی ہے، اس لئے اس کا حل اسی  
میں ہے ان عورتوں کی تعلیم کی فکر کی جائے اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو مبارک فرمائے دن  
دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے امین۔

## لندن میں مرکاتب نسوال

اور آپ حضرات نے تو بہت دیر کی میں لندن جاتا ہوں وہاں برسوں سے  
جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ  
مرقدہ کے ایک خلیفہ ہیں، مولانا محمد یوسف صاحب موٹالہ ان کا نام ہے انہوں نے  
لندن انگلینڈ اور جمنی پیرس کے الگ الگ شہروں میں یہی بالغان عورتوں کے لئے  
بہترین تعلیم کا نظم کیا ہے، غیر اقامتی درسگاہوں کا نظم ہے جیسے یہاں کے ذمہ دار جس  
بیڑے کو لیکر اٹھے ہیں، وہاں برسوں سے جاری ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ محنت کا وہ  
سلسلہ ماشاء اللہ بہت زیادہ متانج خیز ہے، وہاں میرا ایک ماموں زاد بھائی ہے بہت  
بڑی پوسٹ پر ہے اس نے ایک انگریز عورت سے اس کو مسلمان بنا کر شادی کی۔ میں  
اس کی شادی کے دو تین سال بعد اسکے گھر گیا تو میری بھائی اتنا شاندار قرآن پڑھ رہی  
تھی کہ میرے گھر میں بھی اتنا شاندار قرآن پڑھتے ہوئے میں نے نہیں سنایا اور وہ دین  
کی باتیں بھی ماشاء اللہ بہت اچھی کر رہی تھیں۔

تو میں نے میرے بھائی سے کہا کہ تو کامیاب ہو گیا کہ تیری بیوی تو ماشاء اللہ  
بہترین قرآن پڑھتی ہے اس کو یہ قرآن کیسے آیا؟ اس نے بتایا کہ بھائی میری امی  
بالغان عورتوں کے مدرسہ میں جاتی ہے تو میری بیوی کو بھی لیکر جاتی ہے وہاں جا کر اس  
نے قرآن پاک سیکھا اب میں وہاں ہر سال جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دو  
بچے ہو گئے اس کے بچے بھی شاندار قرآن پڑھتے ہیں، یہ نتیجہ ہے اس عورت کے بن

جانے کا اس لئے اس نعمت کی قدر کرو۔

میرے بھائیو! جالنہ شہر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مکاتب کی بہت بڑی نعمتیں دی ہیں اس نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہو گی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا پسیے دے کر محنت کر کے تو شکر ادا کرنا تو ضروری ہوتا ہی ہے، لیکن اپنی ماں بہنوں کو اس مکتب میں بھیج کر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں یہ بھی اس مکتب کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ان مقاصد حسنے میں کامیابی نصیب فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طلب صادق کی بنیاد پر طبیعت کی ناسازگی کی باوجود اتنا بول پایا، حق تعالیٰ شانہ میری اس حاضری کو دین کی حاضری بنائے بُرُّ وَ تقویٰ نصیب فرمائے امین ۔۔۔۔۔

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

وَأَخْرُدْ عَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

## اقتباس

حضرت امام رازیؒ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی مارکیٹ میں ساری چیزیں ملتی ہیں سوائے بندگی کے، اگر بندہ سخاوت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی سخاوت کرتے ہیں اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کا سمندر ہیں اگر بندہ کسی کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی سب کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے اگر بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے ہاں ایک چیز ایسی ہے جو بندے میں تو موجود ہے اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاسکتی ہے اور وہ ہے بندگی، یہ بندے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں ہے اس لئے کہ بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی، تو کیا نعوذ باللہ، اللہ کسی کی غلامی کریگا (جی نہیں) اللہ تعالیٰ کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں بنایا سکتا۔ اور جو چیز مارکیٹ میں نایاب ہو، اس کی قیمت ہوا کرتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ عبادیت اور تواضع کی بہت زیادہ قدر فرماتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

# عبد الرحمن کون ہیں

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعد ه وعلی الہ  
واصحابہ الذین اوفوا عهده اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان  
الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ  
عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا أَخَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَّمًا، وَالَّذِينَ يَبِيِّتُونَ  
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  
إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً، صدق الله  
العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن  
الشاهدین والشاکرین، والحمد لله رب العالمین

محترم بھائیو بزرگ و دوستو۔

چونکہ آج کل سب بیانات اتنے لمبے ہو رہے ہیں کہ بات کرنے کو جی ہی  
نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ بھی مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پیش کرنے میں  
ناگہ کیا جائے، اور خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے تو ناغہ مناسب ہی نہیں، ہاں اتنی

بات ضرور ہے کہ آپ نے ہر پوگرام میں سنائے اور جیسے میں انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں جیسے میں تھکتا ہوں آپ بھی تھکتے ہو نگے قبل اس کے کہ آپ پیچھے سے کہیں یا تہائی میں کہیں کہ مولا نا بہت دیر لگا رہے ہیں تو انشاء اللہ ہم وہ بات کہنے کی نوبت ہی نہیں لائیں گے۔

میرے بھائیو!

میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی، بہت بہترین مضمون اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں بیان فرماتا ہے کہ رحمٰن کے بندے کوں بن سکتے ہیں، رحمٰن کی بندگی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندگی کرنے والے کوں بن سکتے ہیں؟ اور عباد الرحمن بنے کے لئے ان میں کیا کیا اخلاق اور عادیں اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے ان سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتا ہے۔

میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی اس کو پھر دھراتا ہوں کہ تمام بندے تکوئی اور جبری طور پر تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہی، عملی اور اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے کوں بن سکتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں ہم سب خدا تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ (جی ہاں) بندے تو سب ہیں لیکن وہ بندے جن کے بارے میں کہا گیا کہ، فَإِذْ خُلِيَ فِي عِبَادِيْ وَأَذْخُلِيْ جَنَّتِي۔ (اے پاک نفس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ) وہ بندے ہم اور آپ بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امین۔

## عبدالرحمن پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا

جو لوگ عبد الرحمن ہوتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا شیطان ان کو بہر کا نہیں سکتا قرآن پاک کہتا ہے، اَنِّي عَبْدُهُ دِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ، کہ میرے کچھ خاص بندے ہیں جن پر شیطان کا کچھ بھی تسلط نہیں ہوتا اس کا ان پر بس نہیں چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ چیز عطا فرمائی تھی حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ شیطان عمر بن خطاب کے غصب اور غصہ کو دیکھ کر ایک میل دور بھاگتا ہے اسی لئے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو شیطانی خواب آتے ہو، یا جس کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہو، تو وہ اپنے پیٹ کے اوپر عمرؓ کا نام لکھدے، شاید اس نام کی برکت سے اس کو وہ شیطانی خواب نہ پڑے شاید بول رہا ہوں اس لئے کہ کوئی نص قطعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔

## عبدالرحمن بنے کا مزا

بہر حال اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے میں صحیح مزایہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو انتقال کے وقت فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہکر پکارتا ہے اور امام رازیؑ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے سب زیادہ پسند آنے والی چیز عبیدیت ہے بندہ نماز بھی پڑھے بندہ روزے بھی رکھے بندہ حج بھی کرے بندہ صدقہ بھی کرے سب کچھ خدا تعالیٰ کو پسند ہے لیکن بندہ بندہ بن کر رہے یہ خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندہ اپنے آپ کو غلام بنَا کر رکھے بندہ اپنے رب کو اپنا آقا سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔

## عہد اللّٰہ سے یہی عہد مراد ہے

اور اسی عہد کو اللّٰہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا، اللّٰہ سُتْ بِرَبِّکُمْ قَالُوا  
بَلٰی، انسان جب اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اپنی انا نیت اور اپنی شخچی کو اپنی جاہ و جلال  
کو اور اپنی دینیوی زیب و زینت کو اور دنیاوی مناصب کو یقین سمجھ کر یہ کہتا ہو کہ میں کیسا  
بھی ہوں لیکن خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللّٰہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا  
خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں وہ مالک ہے اور میں مملوک ہوں وہ حاکم ہے اور  
میں محاکوم ہوں وہ جابر ہے اور میں مجبور ہوں وہ رازق ہے اور میں مرزوقد ہوں، تو اللّٰہ  
تعالیٰ اس کی اس توضیح کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔

## عبدیت اللّٰہ کے بازار میں نایاب ہے

اور حضرت امام رازیؒ نے مثال دی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مارکیٹ میں ساری  
چیزیں ملتی ہیں سوائے بندگی کے، اگر بندہ سخاوت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی سخاوت کرتا  
ہے اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ تو نیکیوں کا سمندر ہے اگر بندہ کسی کے ساتھ رحم  
و کرم کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی سب کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے اگر بندہ کسی کو معاف کرتا  
ہے تو اللّٰہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے، ہاں ایک چیز ایسی ہے جو بندے میں تو  
موجود ہے اللّٰہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاسکتی ہے اور وہ ہے بندگی، یہ بندے میں موجود ہے  
اللّٰہ تعالیٰ میں موجود نہیں ہے، اس لئے کہ بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی، تو کیا نعمود  
باللّٰہ، اللّٰہ کسی کی غلامی کریگا (جی نہیں) اللّٰہ تعالیٰ کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں لیکن وہ  
اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں بناسکتا، اس لئے کہ وَهُوَ خَلَقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً، اسی نے

ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ تو ہمارا آقا ہے جب بندہ کے اندر عبدیت اور تواضع مکمل شکل میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔

## نایاب چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے

اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مارکیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں سوائے بندگی کے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز صرف ایک ہی دوکان پر ملتی ہو، اور کہیں نہ ہو تو اسکی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ارے بولونا (جی ہاں) ارے بھائی کپڑے کا مارکیٹ لگا ہوا ہے لیکن ایک کپڑا جو اس دوکان پر ملتا ہے وہ دوسری دوکانوں پر نہیں ملتا ہے تو اب اس کے دام آسمان کو چھوٹے ہیں۔

اور اگر وہ کپڑا دوسری دوکانوں پر بھی ملتا ہے تو آدمی اس کو اتنا زیادہ بھاؤ نہیں دیتا ہے کہ یہاں قیمت زیادہ ہے چلو دوسری دوکان پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مارکیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں صرف صفت بندگی موجود نہیں ہے جب بندہ اپنی اس صفت عبدیت کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ مانگے دام میں لے لیتے ہیں بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیری بندگی اسی شرط پر کروں گا کہ تو مجھے جنت دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے لو۔ ان سب باتوں سے یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کی طرف سے کیا جانے والا عبدیت کا اقرار بہت زیادہ پسند ہے اسی لئے تو اس بندہ کی تمام فرمائشیں مکمل کی جاتی ہے جس میں عبدیت ہوتی ہے۔

## پیارے نبی کو بھی لفظ عبد ہی سے پکارا گیا

ایک بات اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو صفت غلامی اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ آپ ﷺ کو لفظ رسول سے اللہ تعالیٰ نے بہت کم پکارا ہے اللہ نے اپنے رسول ﷺ کے لئے بکثرت لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، دیکھئے ایک جگہ فرمایا کہ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ، اور معراج اور اسراء کا واقعہ اتنا شاندار واقعہ ہے جو رسول کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے۔ مگر اتنے بڑے واقعہ میں بھی لفظ عبد کا استعمال فرمایا، سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدِهِ، اور حضور اکرم ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو قرآن پاک دیا اور یہی آپ ﷺ کا سب سے بڑا مججزہ تھا اتنے بڑے مججزے کے دیئے جانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال فرمایا کہ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ، اور سورہ فرقان کا آغاز بھی اسی لفظ عبد کے ذریعہ ہوا، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَا لَمِينَ نَذِيرًا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو لفظ عبد سے یاد کیا ہے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو عبد کا نام دینا بہت پسند ہے اور ایک حبیب جب اپنے محبوب کو پکارتا ہے تو اپنے پسندیدہ نام سے پکارتا ہے جس نام سے اسکو اچھا لگے اس سے اس کو پکارتا ہے میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے

پوچھتے ہیں کہ میں تجھے کس نام سے پکاروں جس سے تجھے اچھا لگے گا جس میں بے تکلفی اور مزابھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول ﷺ کے لئے عبد کے نام کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔

## عبدیت والے نام

اور اسی مضمون کو بخاری شریف کی روایت میں اس طرح فرمایا گیا کہ،  
 أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كَمَالُ اللَّهِ تَعَالَى  
 دونا مول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایک عبد اللہ، اور دوسرا عبد الرحمن، اس لئے  
 کہ ان دونوں میں عبدیت کا معنی ہے بہر حال ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ عبدیت  
 اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لئے ہمیں عبدیت اور تواضع اور انصاری کا اختیار کرنا  
 بے انہتا ضروری ہے۔

## آدم کا نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟

اور بندہ جب تک اپنے آپ کو جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو عبدیت والا  
 بناتا ہے تو وہ اس دنیا میں آدم کا نمونہ بن کر رہتا ہے اس لئے کہ سب سے پہلے تواضع  
 اور عبدیت کا کردار حضرت آدم نے پیش کیا قرآن پاک نے آدم اور ابلیس کے دو  
 کردار پیش کئے ہیں آدم کی خوبی ہی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔  
 اعتراض کیا تھا اور کہا تھا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا  
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس عبدیت کے اعتراض نے آدم کو خدا تعالیٰ کا مجتبی

بنا دیا اس غلامی نے حضرت آدمؑ کو خدا تعالیٰ کا مقرب بنادیا اور انانیت نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا جو کوئی تکبر کرتا ہے وہ ابلیس کا بھائی ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ علم ہے ہمارے پاس بزرگی ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو ایسے لوگ دنیا میں صرف آدمی کے نام سے جیتے ہیں اور حقیقت میں وہ ابلیس کے بھائی ہیں اور جس نے انانیت کے سے کام لیا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔

## بندہ بن کر رہنے میں مزاح ہے

میرے بھائیو!

اس سے پتہ چلتا ہے بندے کو بندہ بن کر رہنے میں جو مزاح ہے وہ بندے کو خدا بن کر رہنے میں مزانہیں ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر رہے بندہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر رہے جو بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا زیادہ جھکا کر چلے گا وہ اتنا ہی زیادہ عبادات و ریاضات میں نیز مجاہدات میں لطف حاصل کرے گا عبادات میں اس کو اتنی زیادہ لذت ملے گی۔

## عبد الرحمن میں لفظ رحمٰن کیوں لاۓ؟

اور دیکھو! قرآن مجید نے عبد الرحمن میں عباد کی نسبت رحمٰن کی طرف کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ عبد اللہ فرمادیتے یا عبد الغفور

فرماتے عباد الوہاب فرمادیتے، لیکن رحمٰن کا لفظ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ صفت عبدیت بھی ہمارے رحم و کرم ہی سے آسکتی ہے، اگر کسی کے اندر صفت عبدیت ہے تو وہ ہمارے رحم و کرم ہی کی نسبت پر ہے ورنہ یہ کوئی کسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہر کس و ناکس اپنے اندر پیدا کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے وہی اپنے اندر عبدیت کی صفت پیدا کر سکتا ہے وہی اپنے اندر توضع پیدا کر سکتا ہے۔ اور جو پیدا کرے گا وہ بلند ہو جائے گا: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفِعَهُ اللَّهُ :

## عبدالرحمٰن کی پہلی صفت بندگی ہے

جن آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی کچھ صفات بیان کرتا ہے سب سے پہلے فرمایا کہ غلامی اور بندگی کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے؟ بندگی مومن کے قال میں بھی اور حال میں بھی اور چال میں بھی ہونی چاہیے، تینوں میں بندگی ہونا چاہیے، اگر کوئی زور زور سے کہہ رہا ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اس کی چال بتاہی ہے کہ خدا ہم ہیں، اس کے اندر متکبرانہ مزاج ہے تو یہ بندگی نہیں ہوئی، اسی لئے قرآن پاک نے پہلے ہی فرمایا کہ عبدالرحمٰن وہ ہیں جن کے ظاہر کا اثر ان کے باطن پر بھی پڑتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر توضع کے ساتھ چلتے ہیں اگر کوئی صرف توضع سے چل رہا ہے، مگر اندر سے حسد ہے، اندر سے تکبر ہے۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو اس کو عبدیت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لئے کہ اندر سے

عبدیت نہیں ہے، اور اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تواضع والا ہوں، اور اکٹر کر چل رہا ہے تو اس کو بھی تواضع نہیں کہیں گے، اس کو عبدیت نہیں کہا جاتا ہے پتہ چلا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور اس کا اعتبار ہے۔

## کچھ لوگوں کا وسوسہ اور ان کو جواب

اس سے ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اصل تodel ہے ظاہر کو کیا سدھاریں؟، تو دیکھئے! قرآن پاک کہتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو ظاہری چال کو بھی ٹھیک بناتے ہیں، اور باطن کو بھی ٹھیک بناتے ہیں، اگر ظاہر کو بنانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو قرآن ظاہری چال کو کیوں درست کرنے کا حکم دیتا؟ اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ابراہم احمد صاحب دھولیویؒ فرماتے تھے کہ جو لوگ اپنا ظاہر نہیں سدھارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اصل تقویٰ کا تعلق تodel سے ہے، تو وہ کھلے وسوسے میں ہیں، اور وہ مثال دیتے تھے اگر تقویٰ صرف ظاہر میں ہے تو سننا بھی کان کے اندر والے پردہ سے ہوتا ہے، باہر والے کان سے نہیں، پھر اس کی کیا ضرورت؟ اس کو کاٹ ڈالو، ظاہر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھنے کا تعلق آنکھ کے اندر کی پتلی کرتی ہے، اوپر کی بھویں کاٹ ڈالو، لیکن آدمی اس کو سنوارتا ہے، کان کو صاف کرتا ہے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کا ظاہر سنوار جاتا ہے تو اس کے باطن کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، دیکھو اگر آپ صاف ہو کر غسل وغیرہ فرمائے تو اس کا وہ بنا کر باہر نکلو تو روح کو بھی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ حالانکہ ہوا صرف ظاہر کو لوگی ہے لیکن باطن بھی خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ظاہر کا بھی اعتبار ہے۔

## باطن بنانے کی دلیل

میں تو یوں کہتا ہوں کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اسی لئے نماز کو مسجد میں مشروع قرار دیا گیا حالانکہ آدمی گھر بیٹھ کر بھی چار رکعت چھر رکعت پڑھ سکتا ہے لیکن کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے کو کہا گیا اور ایک امام کے پیچھے کھڑے رہنے کو کہا گیا یہ سب کیوں؟ اس لئے کہ جب ظاہر میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے تو اطاعت شعاراتی، ایک دوسرے کی محبت، اور اتحاد و اتفاق پیدا ہو گا، اور اس کی وجہ سے دل پر اثر پڑیگا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو حُمَن کا بندہ بنانے کے لئے ظاہر کو سنوارنے کی ہدایت دی ہے کہ، وَيَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ، کہ حُمَن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔

## نرمی سے چلنے کو فرمایا آہستہ نہیں

حُمَن کے بندے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں آہستہ نہیں فرمایا، بلکہ نرمی کے ساتھ چلنے کو فرمایا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگانہ چال یہ ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ چلیں، سو یہ غلط ہے، حضرت عمر بن خطابؓ کے بارے میں کنز العمال میں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک نوجوان ایسے چل رہا تھا جیسے کہ کوئی بیمار آدمی چل رہا ہو، حضرت عمرؓ نے بلا یا اور فرمایا کہ بیمار ہو؟ کہا کہ امیر المؤمنین بیان نہیں ہوں، کہا کہ ابھی درہ دکھاؤں گا تو گردن سیدھی ہو جائیگی، یہ کیسے بیماروں کی چال چل رہے ہو، ذرا تیزی کے ساتھ چلو، مردانگی کی چال چلو، کچھ لوگ تفسیر میں لڑکھڑا جاتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ آہستہ چلنا مراد ہے، آہستہ چلنا مراد نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ چلنا مراد ہے۔

## حضرور اکرم ﷺ کے چلنے کا انداز

حضرور اکرم ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ﷺ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین سمت رہی ہو، بلکہ کہیں کہیں روایت میں تو آتا ہے، کہ إِذَا مَشَى كَانَمَا يَنْحُطُ مِنْ صَبَبٍ، کہ جب آپ ﷺ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہو، اب بتائیے کہ چڑھنے میں دریگتی ہے یا اترنے میں (چڑھنے میں) پتہ چلا کہ حضور ﷺ تیزی سے چلتے تھے، آج کل لوگ اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھا چلتے ہیں، مجھے بہت چڑھتی ہے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے حضور ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا چلتے تھے کہ کوئی اجنبی سمجھنہیں پاتا تھا کہ اس میں محمد کون ہیں اور صحابہ کون ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)

## حضرور ﷺ کی عبدیت کا عالم

آپ ﷺ ایسی چال چلتے تھے کہ جب حضور اکرم ﷺ مدینہ منورہ پہنچ تو جن لوگوں نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا تھا وہ ابو بکر و محمد ﷺ اور محمد ﷺ کو ابو بکر سمجھ رہے تھے، آپ ﷺ اپنے اندر کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے اس لئے کہ بات وہی ہے کہ خوشبو والے پھول کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ میرے اندر خوشبو ہے، جب حضرت ابو بکرؓ نے دیکھا کہ لوگ سمجھنہیں پار ہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے چادر آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑھائی، پھر لوگ سمجھ گئے کہ محمد ﷺ یہ ہیں اس لئے کہ مخدوم ہی کو قادر اڑھائی جاتی ہے، اسی لئے ہمارے اسلاف ﷺ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے (امین) وہ اپنے اندر بھی کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے، آپ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ، یسُوق أَصْحَابَهُ کہ اپنے صحابہ کو حضور اکرم ﷺ اپنے سے آگے رکھتے تھے، پیچھے چلتے تھے، اور اللہ معااف فرمائے آج کل خواڑا بہت کچھ آگیا تو سوچتا ہے میرے آگے پیچھے کوئی چلے، اسی لئے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ، يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوُنَا، کہ مومن زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا ہے، مومن تو واضح اور انکساری کے ساتھ زمین پر زمی کے ساتھ گرتیز قدم جما کر رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس سرزی میں پر اکڑ کر چلے۔

## ملٹری چال بھی ٹھیک نہیں ہے

آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کھٹا کھٹ ایسے پیر رکھتے ہیں جیسے کہ ملٹری چال چل رہے ہوں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ، لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم اکڑ کر مت چلو اور قرآن پاک کیسا خبردار کرتا ہے کہ کتنا بھی اکڑ کر چلو گے زمین تو تمہارے چلنے سے سچھنے والی نہیں ہے اور کتنا بھی کو دکور چلو گے تو پہاڑ کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے یہ قرآن کا انداز بیاں ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکڑ کر اور تنگر کے ساتھ زمین پر مت چلو، اتر اکر مت چلو۔ بہر حال اس آیت پاک سے سمجھ میں آیا کہ ملٹری چال بھی ٹھیک نہیں۔

## حضرت لقمانؑ کی نصیحت

حضرت لقمانؑ کی کچھ نصیحتیں قرآن پاک نے اکیسویں پارے کے اندر ذکر فرمائی ہیں، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی نصیحتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، وہ ان نصیحتوں کو ضرور پڑھ لیں یا بُنَى، یا بُنَى کہہ کر جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اے میرے بیٹے چال میں اعتدال کے ساتھ رہنا، نہ بہت زیادہ تیز، نہ بہت زیادہ آہستہ چلنا، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنے اور میانہ انداز سے چلنے تمہاری چال میں اسلامی مزاج ٹپکتا ہو، نہ کہ شریروں کی شرارت چھکلتی ہو، حضرت لقمانؑ جو اپنے وقت کے مشہور حکیم ولی صفت انسان تھے اور بعض لوگوں نے تو ان کو نبی بھی کہا ہے انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی چال کو درست رکھو، اور ان کی تمام نصیحتیں بہت قیمتی ہیں۔

## نماز کے لئے بھاگ کر آنا ممنوع ہے

اور دیکھو نماز کے اندر تیزی سے بھاگ کر آنے کو بھی آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے، کچھ لوگ گھر سے دیر سے آتے ہیں، اور دیکھا کہ رکوع ہونے والا ہے تو اتنا تیز دوڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسجد گرجا نیگی، تو اس طرح بھاگ کر نماز میں شامل ہونا منع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز سراپا عبدیت کا نام ہے اور بھاگ کر آنے میں عبدیت نہیں رہتی ہے اس لئے منع ہی فرمادیا۔

## آپ ﷺ کی تربیت

ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ذرا دیر سے مسجد میں آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، اور رکوع جس کا صحیح اس کی رکعت صحیح، میں تو اس کو بزرخ کہا کرتا ہوں اس لئے کہ بزرخ بھی جس کی صحیح اس کی تمام منزلیں صحیح، اور سجدے میں تو قبر ہی یاد آتی ہے، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے آئے اور رکوع میں شامل ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھاگ کر آنے کے بعد سانس چڑھ جاتی ہے تو ان کا سانس پھول گیا آپ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کون ہیں وہ صاحب جو بھاگ کر آئے تھے۔

یہاں ایک بات سن لو کہ آپ ﷺ کی تربیت فرماتے تھے تو حکمت کے ساتھ فرماتے تھے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے، وہ صحابی تو اعلان سن کر گھبرار ہے تھے کہ اب کیا ہو گا، اور وہ بھی بھاگ کر اسی لئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ایک رکوع زیادہ ملے گا اور جماعت پوری مل جائے گی جب حضور ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو بھاگ کر آیا ہے تو وہ گھبرانے لگے کہ اب کیا ہو گا؟ لیکن اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا، زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ تمہاری تمنا میں اور ان جذبات میں اور اضافہ فرمائے، پہلے دعا دی، اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا بھاگنا اور دوڑنا میرے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لئے تھا اور آگے نصیحت فرمائی کہ، وَلَا تَعْدُ، بھاگومت، اب ہم اور آپ ہوتے تو

کیا کہتے کہ شرم نہیں آتی تمہیں کہ اس طرح بھاگتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے کہتے، ذرائع علمندی سے بات کرنی چاہئے پیار محبت سے سمجھانا چاہئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ، زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا اللَّهُ تَعَالَى تَمَهَّرِي إِلَيْكُمْ أَدَمِيْمُ اُمَّتِكَ اصلاح کیسے اس کے بعد اصلاح فرمائی۔ گویا اس حدیث پاک میں ہمیں امت کی اصلاح کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔

### لَا تَعْدُ کے تین مطلب ہو سکتے ہیں

اور دیکھو! جیسا کہ قرآن پاک میں الگ الگ قرائیں ہیں اسی طرح احادیث کے اندر بھی قرائیں ہیں اب اس جملے کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں وَلَا تَعْدُ، وَلَا تَعْدُ، وَلَا تَعْدُ، تینوں کے معنی الگ الگ ہیں اور تینوں بھی ماشاء اللہ اپنی جگہ پڑھ ہیں، وَلَا تَعْدُ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دوبارہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اس لئے کہ اس سے نماز کا خشوع اور خصوع فوت ہو جاتا ہے اور دوسرے کچھ محدثین نے اس کو پڑھا ہے لَا تَعْدُ، اور، عَذَا يَعْدُونَ عَذَا وَأَرْجُوا، کامعنی ہوتا ہے دوڑنا بھاگنا یعنی بھاگا ملت کرو۔

اور عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ دشمن کو بھی عربی میں، عَذُّو، کہا جاتا ہے اس لئے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کی ٹوہ میں ہی لگا رہتا ہے اس کو مارنے کے لئے اپنا دماغ بھگاتا ہے یا اپنے قدم کو اس کے پیچھے دوڑاتا ہے، اس لئے اس کو بھی عَذُّو کہا جاتا ہے۔ اور ایک قرات ہے وَلَا تَعْدُ، کہ تم اپنی نماز دوبارہ مت لوٹاؤ، اس لئے کہ تم نے نماز کا رکوع ہمارے ساتھ پالیا، اب دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت

نہیں ہے، اور آخر میں فرمایا کہ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوأَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا۔ کہ بالکل سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ نماز کے لئے چل کر آیا کرو، بہت بھاگنا بھی نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ چلنا بھی نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ آیا کرو، جو رکعت مل جائے اس کو پڑھو، اور جو رکعت چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کرو۔ جب نماز کے لئے اطمینان اور وقار سے چلنے کے لئے کہا گیا ہے تو پھر دوسری جگہوں پر اس انداز سے چلنا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور ہمارا مقام بہت اونچا ہے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا تصور ذہنوں سے نکال دیں۔

### اکٹ کر چلنے والوں کے ساتھ قبر کا سلوک

تو فرمایا کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر اکٹ کر نہیں چلتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا، اور دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بَأَبْعَدُ عَذَابِ الْقَبْرِ کے اندر یہ روایت ہے کہ جو لوگ بہت اکٹ اکٹ کر چلتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو قبران سے کہتی ہے کہ بھول گیا تو میری پشت پر بڑا اکٹ کر چل رہا تھا، اب میں تجھے ایسے دبوچوں گی ایسے دبوچوں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔

### امام مالکؓ کا مقولہ

امام مالکؓ فرماتے ہیں انسان زمین پر اکٹ کر کیسے چلے؟، اولُه نُطفَةٌ

وَآخِرُهُ تُرَابٌ، كَمَا كُنْتُ كُرْكِيْسَيْسَيْ چلتا ہے اس کو تو اپنی ابتداء اور انتہاء دیکھنی چاہیے، اول ابتداء میں تو ہم نطفہ تھے، اور آخری انجمام مٹی ہے، کتنا ہی تن و من جسم ہو، لیکن قبر کی مٹی اس کو بھی گلا دیتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔

## عبد الرحمن کی دوسری صفت

عبد الرحمن کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ جب ان سے نادان لوگ الجھ جاتے ہیں تو یہ لوگ سامنے والے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اور سامنے والے کے ساتھ الجھنا مسئلہ کو بگاڑ دیتا ہے، اس کو تو السلام علیکم کر کے چلے جانا چاہیے کہ بھائی توجانے اور تیرا کام جانے، اسی لئے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ میں گفتار کا طریقہ نہ ہو، ان کے ساتھ زیادہ ہم کلامی باعث شر ہوتی ہے، ان لوگوں کو بس السلام علیکم ہی کہہ کر نکل جانا چاہیے۔

## جاہل آدمی کے ساتھ الجھنے کا نقصان

اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جاہل آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا آپ کے ایمان کو بھی ضائع کر سکتا ہے، ہر ایک کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، اسی لئے ہمارے علماء نے مناظرہ کرنے کی شرط لگائی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی قادری مل گیا یا کوئی غلط نظریات رکھنے والا مل گیا، اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ دیکھے

لیجئے کہ اگر آپ دلائل دیں گے تو وہ صحیح بات کو قبول کرے گا یا نہیں، اگر قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے میں فائدہ ہے، اور مقابلہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی ہی بات پر تلاہوا ہے، اور آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے، تو اسلام اس طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کے ساتھ بحث نہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جانے والا نہیں ہے، اور کچھ مفسرین، وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے تحت لکھتے ہیں کہ نیک بندے سلامتی والی بات کہتے ہیں کہ اس کو بھی برانہ گلے اور اپنی بھی بات چل جائے، تو رحمٰن کے مخصوص بندوں کی ایک تو چال بیان کی گئی کہ، يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا، زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور دوسروی صفت بیان کی گئی کہ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے ہیں۔

## عبد الرحمن کی تیسری صفت

اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ رحمٰن کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں رکوع اور سجدے میں گزرتی رہتی ہیں جو دن میں اپنے اہل و عیال کے لئے کماتے ہیں اور دن میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے جہاد کرتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر اللہ سے لوگاتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ گَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجُّونَ وَبِالاسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونُ، کہ اللہ کے

نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں اور صبح اللہ کے سامنے استغفار بتاتیں کرتے ہیں۔

## رات کی نماز کا ذکر کیوں؟

رات کی نماز کا تذکرہ فرمایا اس لئے کہ رات کی نماز میں روحانیت کی ترقی کو جتنا بڑا دخل ہے اتنا کسی بھی نماز کو نہیں ہے اسی لئے بیان فرمایا گیا کہ صَلُوا بِاللَّلِيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اسی لئے بیان فرمایا کہ تَسْجَافِيْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ، کہ حَمْنَ کے بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے رب سے دعا میں مانگتے رہتے ہیں، تو رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے، رات کا وقت رکوع اور سجدے کا وقت ہے، اور حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز پہلی امتون پر بھی فرض قرار دی گئی تھی، اور رات کی نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد حضور اکرم ﷺ کو اتنے بڑے عہدے اور مرتبہ کے دینے کا وعدہ کیا ہے جو کسی عمل کے بعد نہیں کیا گیا، ارشاد ہے، وَمِنَ الْلَّلِيْلِ فَتَهَجَّدِ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ ، کہ رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھو، اگر تم رات والی نماز پڑھو گے تو عَسَى ان يَعْشَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کے نتیجہ میں مقام محمودتک پہنچائیگا اللہ تعالیٰ راتوں کی عبادت کے ذریعہ بندوں کو خوب نوازتا ہے، یہ عشرہ بھی راتوں کو جانے کا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں دھوئیں، خدا تعالیٰ سے

اپنی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے کارخیر کے جذبات کو بھی طلب کریں کہ اے اللہ تو ہمیں حسن توفیق سے نواز دے۔ آمین، اس لئے اس عشرہ میں خاص طور سے عبادات کرنی چاہئے۔

## عشاء اور فجر کی ایک خاص فضیلت

اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس کورات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور اپنی ماوں اور بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہئے خوش نصیب ہیں میری وہ ماں میں اور بہنیں جنہوں نے اپنے آپ کو اخیر عشرہ میں اعتکاف میں بٹھا دیا ہے یہ بھی سنت ہے جہاں آپ ﷺ اعتکاف فرماتے تھے، وہیں ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں عورتوں کے لئے بھی اعتکاف مشروع ہے، یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنے گھر کے اس کونہ میں چادر ڈال کر بیٹھ جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، چادر کا تانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کے لئے سب سے پہلی شرط شوہر کی اجازت لینا ہے، اور بھی کچھ بتیں ہیں جو انشاء اللہ بعد میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الْأَئْمَاءِ وَالصَّحَابَةِ جَمِيعِينَ

وَأَخْرُدُ عَوَانًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اقتباس

جو شخص رشته داریاں نہیں نبھاتا ہے بھائی کو بھائی  
 نہیں سمجھتا مگر باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بہنوں کا حق نہیں  
 دیتا بھانے بھتیجیوں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتا قرآن پاک  
 ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جس کو فرمایا کہ: اُولَئِكَ لَهُمُ  
 الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ : کہ رشته داریاں نہ نبھانے والوں  
 پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے، قرآن  
 پاک باقی ہے، باقی رہے گا، لہذا ان لوگوں پر لعنت بھی ہمیشہ  
 کے لئے باقی رہے گی یہ قرآن پاک کی بد دعا ہے اگر کوئی بڑی  
 ہستی انسان کو بد دعا دے تو وہ انسان اپنے آپ کو بڑا بد نصیب  
 سمجھتا ہے اور یہاں تو رشته داریاں نہ نبھانے والوں کو قرآن  
 پاک خود بد دعا دے رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اسلام میں رشته داری اور اس کی اہمیت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونون من به ونحو كل علي  
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهدى الله فلا  
مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده  
لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله  
تبارك وتعالى عليه وعلى الله واصحابه وزواجه وذراته واهل بيته  
واهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا: اما بعد فاعوذ بالله  
من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم ، افمن يعلم انسانا انزل  
الىك من ربكم الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر أولو الالباب الذين  
يوفون بعهده الله ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان  
يؤصل ويخشون ربهم ويختلفون سوء الحساب وقال تعالى وات ذا  
القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيراً اصدق الله العظيم وصدق  
رسوله النبى الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين  
والحمد لله رب العالمين

## تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے

محترم بھائیو بزرگوار دوستو!

اسلام صرف پانچ وقت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام میں بہت سارے امور ہیں جن کا بجالانا ضروری ہے، ان میں سے ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد کی ادائیگی ہے جو شخص ان تمام امور کو بجالاتا ہے وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہے اسلام کسی ایک چیز کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ بعض کو ادا کیا جائے اور بعض کو ترک کیا جائے، یہ کامل اسلام نہیں ہے، قرآن مجید نے ایمان والوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک بات کہی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُو فِي السَّلْمِ كَافَةً، اے ایمان والو! پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہود و نصاری کا طریقہ تم میں نہ ہو کہ بعض احکامات پر عمل کرے اور بعض پر نہ کرے۔

یہود و نصاری کا طریقہ یہی تھا کہ بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض پر عمل نہیں کرتے تھے، جس کا قرآن پاک نے: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کہہ کر دیا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو مانتے ہو، اور جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے ہو، اسلام اس طریقہ کو پسند نہیں کرتا۔ مثلاً ایک آدمی نماز کا بہت پابند ہے روزہ بھی رکھتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے لیکن اس کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس کی تجارت اسلامی طریقہ پر نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص اللہ کے یہاں لعنت کا مستحق بنتا ہے، اس لئے کہ قرآن پاک کہتا ہے: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدٌ

العَذَابِ : کہ جو بھی شخص شریعت میں بُوارہ کرتا ہے احکامات کو تقسیم کر دیتا ہے تو ہم اس کو دنیا کی زندگی میں بے عزتی اور رسوائی دیتے ہیں اور آخرت کے دن اس کو سخت عذاب میں لوٹایا جائے گا قرآن کریم کی آیت کریمہ انسان کے دل کو رشته داری نبھانے کی دعوت دیتی ہے۔

## قرآن پاک کی نظر میں اہل دل

اور قرآن پاک کہتا ہے کہ ہمارے نازل کردہ احکامات سے نصیحت صرف عقائد لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اور عقائد لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک نے ان کی پوری فہرست ہمیں بتلا دی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ: **الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيَثَاقَ** عقائد لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم ازل میں کئے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں: جلالین شریف کے حاشیہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ عالم ازل میں میرے پڑوس میں کون تھا۔ بہر حال تو اس وعدے کو یاد رکھنا عقائدی ہے، اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس وعدے کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے ہیں دنیا میں آکر دوسروں کو کرتا دھرتا مانتے ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

## رشته داری نہ نبھانے والے ملعون ہیں

اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک ان لوگوں کو عقائد کہتا ہے جو رشته دار یوں کو

نبھاتے ہیں اور رشتہ داروں کے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جن کے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو شخص رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا مگر باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، بہنوں کا حق نہیں دیتا بھانجے بھتیجوں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتا قرآن پاک ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جس کو فرمایا کہ: **أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ**: کہ رشتہ داریاں نہ نبھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لئے براکھر ہے، قرآن پاک باقی ہے، باقی رہے گا، لہذا ان لوگوں پر لعنت بھی ہمیشہ کے لئے باقی رہے گی یہ قرآن پاک کی بد دعا ہے اگر کوئی بڑی ہستی انسان کو بد دعا دے تو وہ انسان اپنے آپ کو بڑا بد نصیب سمجھتا ہے اور یہاں تو رشتہ داریاں نہ نبھانے والوں کو قرآن پاک خود بد دعا دے رہا ہے۔

## ایک فضیلت

بلکہ روایت میں آیا ہے کہ: **الرَّحْمُ مُعلَقٌ بَيْنَ عَرْشِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ وَصَلَىٰ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ**: آپ ﷺ نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے اور وہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ۔ آپ دیکھئے کہ ہمارے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے اور تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے پیچھے یہی راز پوشیدہ ہے کہ ہم نے کسی رشتہ دار کا حق دبایا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹا۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔

## رزق اور عمر میں برکت

حضرور پاک ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں برکت ہوا اور میری عمر میں برکت ہو تو اس کے لئے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ رشته داروں کے حقوق ادا کرے، ہم میں کون ایسا ہے جس کو ان دونوں چیزوں کی فکر نہ ہو سب اسی کے لئے کوششیں کرتے ہیں انسان اللہ والوں سے انہی دو چیزوں میں برکت کے لئے دعائیں کرواتا ہے جب کہ اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ رشته داروں کے حقوق ادا کرو تمہارے رزق اور تمہاری عمر میں برکت ہوگی، سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشته داری کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور رشته داری کو توڑنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ: اللَّهُ سَدِيرُهُ جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشته داریاں توڑنے سے اللہ کے یہاں ڈرتے رہو۔

## قاطع رحم کی دعا قبول نہیں ہوتی

وہ جگہیں جہاں دعا کیں قبول ہوتی ہیں مثلاً شب قدر، شب برات، ملتزم، میزاب رحمت کے نیچے، میدان عرفات میں جہاں تمام دعا کیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک جگہوں پر بھی رشته داری توڑنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ یہ رشته داریاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھے خاندان کا رشته دیا ہے ہم نے تجھ کو اس رشته سے جوڑا ہے اگر تو رشته داری کو توڑتا ہے تو گویا تو نے ہماری قائم کی ہوئی چیز کو توڑ دیا

اس خاندان میں ہم نے تجھے پیدا کیا تاکہ ان کے حقوق نبھائے اور تو ان پر خرچ بھی نہیں کرتا ہے بلکہ باہر اپنی واہ واہ بتلانے کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ہمارے انتخاب کو پسند نہیں کیا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔

## انسان کی دورستہ داریاں ہیں

قرآن مجید نے احسان جلتاتے ہوئے سورہ فرقان میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا: اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ دورستہ داریاں لگادی ہیں، ایک نسبی رشتہ لگادیا ہے، اور ایک سرالی رشتہ لگایا ہے، اپنے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں اس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سرالی رشتہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا خاندان تیرا خاندان ہو جائے گا، اس لئے کہ وہ عورت بہت ساری قربانیاں دیتی ہیں کل تک یہ اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھا کرتی تھی، جہاں تو نے اس کو قبول کیا یہ اپنے ساتھ تیرا نام لگادیتی ہے، جب اس کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، تو پھر اس کے خاندان کو اپنا خاندان کیوں نہیں سمجھتا، اور وہ شوہر کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھتی ہے، اس لئے اے مرد تیرا بھی فرض ہے کہ تو اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے، میں اس کو تاکیدی انداز سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے اس کو مقامِ امتحان میں ذکر فرمایا ہے قرآن پاک نے اس کو احسان جلتانے کے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ (لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ سالی اور دیوار اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں سے پردہ ہے جس کا بیان کسی مناسبت آئے گا انشاء اللہ یا آپ مقامی علماء سے رجوع فرمائیں)

شادی کرنا کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے بلکہ شادی دو خاندانوں کا میلا پ ہے شادی دو خاندانوں کے آپس کی محبت ہے تو آدمی کو چاہئے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص رشتہ دار یوں کوئی نبھاتا اس کی نماز آسمان پر نہیں چڑھتی بلکہ لٹکی ہوئی رہتی ہے۔

## خاندان بنانے کا مقصد

رشتہ دار یا اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ **بِيَايْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا** : اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ذکر اور ایک موئیت یعنی آدم اور حواء سے پیدا کیا اور ہم کے بعد تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پیچان کر اس کا حق ادا کر سکو، اس لئے کہ اگر خاندان ایک ہی ہوتا تو انسان خاندان کے حقوق کیسے ادا کرتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اس لئے بھی تاکہ آپس میں شادیاں وغیرہ ہو سکے، اسی لئے نسل آدم کے شروع میں یہ ترتیب بنائی گئی تھی کہ دوسرے بطن کی لڑکی سے پہلے بطن کا لڑکا نکاح کر سکتا ہے تو یہ خاندان کا بناانا اس لئے ہے تاکہ انسان حقوق کو ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کالا گورا، امیر غریب، ہندوستانی یا لندنی ہونا معیار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب وہ ہے جو متقدی اور پر ہیز گار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْدَامُكُمْ** : کہ تم میں اللہ کے یہاں کامیاب شخص متقدی ہے۔

## رشته داری میں بدلہ نہ چکا میں

یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رشته داری انہی لوگوں کے ساتھ نبھانا چاہیے جو ہمارے ساتھ رشته داری نبھاتے ہیں، بعض لوگوں سے کہو کہ بھائی تمہارے بھائی کی پچی کا نکاح ہے تم اس کی مدد کرو، وہ کہتا ہے کہ اس نے میری پچی کی شادی میں کیا دیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں بلکہ عورتیں اس سلسلہ میں بہت آگے ہوتی ہیں وہ تو گن کر رکھتی ہیں کہ فلاں نے میری پچی کی شادی میں دس روپے دیئے تھے میں بھی اس کی شادی میں دس ہی دوں گی، یہ رشته داری کو جوڑنا نہیں ہے بلکہ یہ تو بدلہ چکانا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: **لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُمْكَافِيِّ** : رشته داری کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ کا بدلہ دے، اگر کسی نے ہماری دس روپے سے مدد کی تو ہم بھی اس کی دس روپے سے ہی مدد کریں گے یہ رشته داری کو جوڑنا نہیں ہے جس نے تمہارے ساتھ رشته داری نبھائی اس کے ساتھ تم بھی رشته داری نبھاؤ، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔

بلکہ رشته داری کو نبھانے والا وہ ہے کہ اس کا رشته دار اس کو گالیاں دیتا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہو، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ رشته داری کو نبھانا ہے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے کے لئے جگر چاہئے، بلکہ اس مقام پر اچھے اچھوں کے دل اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو پانی پلاتا ہے اس کو آپ پانی پلانے میں یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اس کو آپ پانی پلانے میں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے

ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تب قرآن پاک اس کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ: وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْذُّحُّجَ عَظِيمٌ، کہ جس نے اس مقام کو پالیا وہ لوگوں کے ساتھ ان کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ بڑی قسمت والا ہے۔

## آپ ﷺ کی شان رسالت

آپ ﷺ نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے بلکہ رشتہ داری کو نبھانے والا تو وہ ہے جو اچھا سلوک نہ ہونے پر بھی اس کے ساتھ اچھائی کی کا معاملہ کرے، اور یہ بات آپ ﷺ کے شایان شان بھی ہے کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کو بیان کر دیا جائے اس لئے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔

اس لئے آپ ﷺ نے ہمارے اس زمانہ کے حالات کو بیان فرمادیا بلکہ آپ ﷺ نے وہ باتیں بیان فرمائی جو عربوں میں موجود نہیں تھیں جن کا چلن عجم میں تھا لیکن اس کا بیان عرب میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے کروایا یہ شان رسالت ہی ہے۔ آج کل ہمارے زمانہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ جس نے ہماری پچاس روپے سے مدد کی تو ہم بھی اس کی اتنی ہی مدد کرتے ہیں، اور جس نے مدد نہیں کی اس کے ساتھ ہم بالکل مدد والا معاملہ نہیں کرتے ہیں، یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل غلط ہے، ہم ایسے مقامات پر بھی حسن سلوک ہی کا معاملہ کریں جہاں ہمارے ساتھ کسی نے نیک سلوک نہ کیا ہو۔

## رشته داری کے سلسلہ میں تاکیدی نظریہ

قرآن پاک نے جہاں جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے رشته داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے پارے کے دسویں روئے کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں :  
 وَإِذَا حَدَّنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِكْرِ  
 الْقُرْبَى : کہ اے لوگو! ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسرا پارے کے چھٹے روئے میں فرمایا: لَيْسَ الْبِرُّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَّى الْمَالَ عَلَىٰ حُجْبَهُ ذُوِي  
 الْقُرْبَى - اس آیت پاک میں جہاں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ نیک لوگ وہ ہے جو رشته داری کا حق ادا کرتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احکام کو ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا: وَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ  
 وَالْمِسْكِينُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِلْ تَبْدِيلَرَا :

پوری آیت اس طرح ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدِينِ  
 إِحْسَانًا إِمَّا يَلْعَنَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أُفَّ وَلَا  
 تَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  
 رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا  
 صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّاءُوَابِينَ غَفُورًا وَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، الخ،، یہاں بھی اللہ  
 تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تو حید کا ذکر فرمایا پھر والدین کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ

ہمدردی کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ رشته داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوهُ شَيْئًا وَبِالْأَوَالِ الدِّينِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور رشته داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

## رشته داری بے غرض نبھائیں

آدمی آج کے دور میں نام پسند ہو گیا رشته داروں میں اس کا نام نہیں ہوتا اس لئے وہ وہاں خرچ نہیں کرتا، اور جہاں اس کے نام کی واہ واہ ہوتی ہے وہاں انسان روپیہ پیسہ لگاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو نہیں دینا ہے ان کے پاس کیا کم ہے؟ اور بہت سے لوگ مختلف قسم کے جملے کہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ان کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ جیسے مقدس فریضہ کا سب سے پہلا حقدار آدمی دینے والے کا رشته دار ہے، بشرطیکہ ڈائیریکٹ خون نہ ملتا ہو، مثلاً باپ دادا وغیرہ کو نہیں دے سکتا، اسی طرح بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ کو نہیں دے سکتا، ہاں جہاں خون علیحدہ ہو جائے وہاں دے سکتا ہے، مثلاً بہن کو دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے، اسی طرح بھائیج اور بھتیجے کو دے سکتا ہے۔

## زکوٰۃ کے اولاً مُسْتَحْقِق رشته دار ہیں

اور یہ رشته دار اگر غریب ہیں تو زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار ہیں، اسلام نے ترتیب وار بٹلایا ہے کہ سب سے پہلے رشته داروں میں زکوٰۃ دی جائے گی اور رشته داروں

میں جو زیادہ قریب ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا، اور اگر رشتہ دار سب مالدار ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو اب پڑوسنیوں کا نمبر آئے گا اس کے بعد محلے میں جو مستحق ہیں ان کا نمبر آئے گا ان کے بعد آپ کے گاؤں یا شہروالوں کا نمبر آئے گا بلکہ صاحب ہدایہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر بستی میں غریب لوگ ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ہیں اب اگر کوئی باہر زکوٰۃ بھیجتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

## رشتہ داری نبھانے والا رسول نہیں ہوتا

اور الحمد للہ مجھے ایک زبردست بات یاد آ رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ کو تسلی دی تھی اس لئے کہ حضور ﷺ کو نبوت تو چالیس سال کی عمر میں ملی جب کہ نکاح پھیس سال کی عمر میں ہی ہوا تھا حضور اکرم ﷺ ملاش حق میں غار حراء کے چکر لگاتے تھے: وَكَانَ يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَاءَ كَالْفَاظُ وَارِدٌ ہیں جب حضور اکرم ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو فرشتہ کو پہلی بار دیکھا تھا اس لئے سردی بھی لگ رہی تھی اور گرمی بھی ہو رہی تھی جب پسینہ نکلے اور ٹھنڈی ہوا بھی لگے تو سردی ہو جاتی ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کی فطرت ہے کہ اس مصیبت کا تذکرہ آدمی سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے تو حضور اکرم ﷺ نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ: زَمْلُونِي زَمْلُونِي: مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ۔

اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کا بدن مبارک کپکپا رہا تھا۔ حضرت خدیجۃؓ نے پوچھا میرے آقا کیا بات ہے آج آپ اتنے گھبراۓ ہوئے کیوں ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ذات ختم ہو جائیگی، اصل بات میں آپ کو بتلانا چاہتا

ہوں حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ: كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّفِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہ:  
 اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوانیں فرمائے گا اس لئے  
 کہ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت خدیجہؓ بھی ایمان نہیں لائی ہیں  
 لیکن وہ بھی مانتی ہیں کہ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوانیں کرتا  
 حضرت خدیجہؓ کو پہلے ہی سے دین سے لگا و تھا، انہوں نے ورقہ بن نوفل سے سن رکھا  
 تھا وہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے کہ جو صلدہ رحمی کرتا ہے وہ کبھی رسوانیں ہوتا اس لئے  
 انہوں نے یقین سے کہا اور خدیجہ وہ ام المؤمنین ہے جنکے بطن مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے  
 جنت کی سردار حضرت فاطمہؓ کو پیدا فرمایا وہ فرماتی ہیں کہ جو رشتہ داری کا حق ادا کرے وہ  
 کبھی رسوانیں ہو سکتا۔

## وھی بھاری ہوتی ہے

اور وھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے  
 رسول ﷺ میری ران پر سر رکھ کر سور ہے تھے اس وقت وھی نازل ہوئی تو مجھے ایسا  
 لگ رہا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چور ہو جائیگی یہ وھی ہے جس کے بارے  
 میں قرآن پاک نے کہا کہ: لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا  
 مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ: کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ چورا  
 چورا ہو جاتا ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ اونٹی پرسوار تھے اور وھی نازل ہوئی تو وہ  
 اونٹی اس طرح بیٹھ گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اونٹی زمین میں ڈھنس جائے گی۔

## مشرک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم

میرے بھائیو! قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اکیسویں پارے کی آیت ہے: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اس آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں اور وہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائیگی لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہم لوگ قرآن پاک کی ان آیات پر اترتے ہیں یا نہیں۔

## غیر رشته دار سے قطع تعلق نادرست

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو رشته دار ہمارے گنگا تار ہتا ہو، اور جو رشته دار ہمارے گھر کے چکر لگا تار ہتا ہو، وہ تو بہت اچھا ہے اور جس رشته دار نے ہمارا حق ادا نہیں کیا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی رشته داروں سے اس کی لڑائی جاری رہتی ہے، سگے بھائی بہنوں میں بات بند ہو جاتی ہے، بھائی کی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، اور بات بند ہو جاتی ہے جب کہ اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے ساتھ کوئی رشته نہیں، اس کے ساتھ بھی تین دن سے زیادہ بات بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب دوسروں کے ساتھ بات بند کرنا جائز نہیں تو رشته داروں کے ساتھ بات بند کرنا کیسے جائز ہوگا؟

## رشته داری نبھانے میں دو گنا اجر ہے

رشته داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں زیادہ اجر ملتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ کے دروازہ پر زینب نام کی ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی، حضرت بلالؓ تشریف لائے تو حضرت بلالؓ سے انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ سے کہد تھے کہ یہاں زینب کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس زمانے میں زینب نام کی بہت سی عورتیں حضور ﷺ کی بیوی کا نام بھی زینب تھا اور حضور ﷺ کی بیوی کا نام بھی زینب تھا، اور بھی زینب نام کی عورتیں ہو گئی، حضور ﷺ نے فرمایا پوچھو کونسی زینب ہے، حضرت بلالؓ پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی بیوی ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ پوچھو کیوں آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ لینے آئی ہوں، فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے نفل صدقہ نکالنا ہے، اور میرے شوہر بھی اس کے مستحق ہے تو کیا میں اپنے شوہر کو نفل صدقہ دے سکتی ہوں۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ دے سکتی ہے اور دینا بھی چاہیے اور اس میں تجھ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشته داری کا ثواب ملے گا (نفل صدقہ کہہ رہا ہوں صدقہ واجہہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر نہیں چلے گا) جب شوہر کو دینا افضل ہے جبکہ دونوں کا نفع مشترک ہے، شوہر کو دیگی تو وہ بیوی کو ہی کھلائے گا اور بیوی کو دیا جائے تو وہ اپنے شوہر کو ہی دیگی جب ان کو دینا افضل ہے تو دوسرے رشته داروں کو دینا اس سے بھی افضل ہو گا، اس لئے کہ وہاں تو کسی نفع کی امید ہی نہیں۔

## اپنے نام کے لئے خرچ نہ کریں

اور میرے بھائیو! کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ میں خرچ کروں گا تو میرا نام ہو گا جب کوئی اس طرح اپنی شہرت سوچ کر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور دکھلانے کے لئے خرچ کرنا منافقین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ**، کہ یہ منافق لوگ دکھلاؤے کے لئے خرچ کرتے ہیں، اس لئے ہمیں دکھلاؤے سے بچنا چاہئے۔

اور میں پھر کہتا ہوں کہ رشته داروں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہو گا ان کی دلیکھ بھال کرنی ہو گی ان کی خوشی غمی کا خیال رکھنا ہو گا وہ اگر نخرے کریں تو ان کے نازخترے بھی برداشت کرنے ہوں گے اگر اس مقام کو ہمیں پانا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے رکھے ہیں۔ آپ نے دلیکھا ہو گا کہ بعض رشته دار ایسے ہوتے ہیں آپ ان پر خرچ بھی کریں گے آپ کا وہ پیسہ بھی لیجائیں گے اور آپ کو گالیاں بھی دیں گے کہ اتنا ہی دیا تھوڑا ہی دیا اور ایسا ہی دیا ویسا نہیں دیا وغیرہ وغیرہ لیکن جس نے ان باتوں کو برداشت کیا اور ان سے رشته نہیں تو ٹراویسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ: **أُولَئِكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَّارِ**: انہی لوگوں کے لئے جنت کا گھر ہے۔

## ہمیں رشته دار یاں نبھانی ہو گی

ہمیں رشته داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا ہو گا آج کل ہمارے معاشرہ میں اتنا تناو بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی غصہ میں کہدیا جاتا ہے کہ میرے جنائزے

میں بھی نہیں آنا، کسی اور کوئی نہیں اپنے بھائی کو اپنی بہن کو کہدیتا ہے معمولی دنیا کی وجہ سے رشته داری میں خرابی پیدا کی جاتی ہے دنیا تو ایسی ہے، ہی کہ اس میں جھگڑے ہونگے اور صلح بھی ہوگی، جلد بازی میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، رشته دار یوں کو نبھانے کی فکر کریں، آپ نے پہلے دیکھا ہو گا کہ لوگ کتنا رشته داری کو اہمیت دیتے تھے اور دور کی رشته دار یوں کو بھی ملاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں کیسی برکت دی تھی، وہ دن بھر میں پانچ روپے کماتے تھے، لیکن سکون کی زندگی بسر کرتے تھے، بیل گاڑا لے کر آٹھ آٹھ دن وہ رشته داروں سے ملاقات کرتے تھے، مگر افسوس کہ آج سب فون پر ہی ہو رہا ہے کوئی بیمار ہوا، اسکی عیادت فون پر، کوئی مر گیا اس کی تعزیت فون پر، کسی کے یہاں بچہ بچی پیدا ہوئی اس کی مبارکباد فون پر دیدی ہمارا سب کام فون پر ہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رشته داری نبھانے سے ہم کو سوں دور جا رہے ہیں۔

آپ کی تنخواہ ہوتی ہے اس تنخواہ میں سے گھر کے بڑے بوڑھوں کو سود و سور و پے نکال دو اگرچہ یہ رقم زیاد نہیں ہے، مگر ان کے دل بہت بڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے بیٹے نے اپنی تنخواہ پر ہمیں یاد رکھا، اپنے دادا دادی نانا نانی کو نہیں بھولا، باپ کے ملنے جلنے والوں کو کبھی چائے پلا دو، ان کے بھی دل سے سے دعا نکلے گی کہ فلاں صاحب کا بیٹا واقع میں بیٹا ہے، اور وہ آپ کے والد سے کہیں گے کہ واقع میں آپ نے اولاد بنائی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں، ان میں سے مذکورہ بالا چیزیں بھی ہیں اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کسی کی خوشی غمی میں ہم راست شرکت کریں۔

دیکھو میرے بھائیو!

اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہو لیکن اگر آپ اس کے گھر کسی غمی یا خوشی کے وقت چلے گئے تو  
یاد رکھئے وہ بہت زیادہ احساس کرے گا، یہ چیزیں اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے  
مصیبت میں کام آنا خود اپنے لئے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وہ آپ کو زندگی  
بھریا درکھے گا۔

المصیبت میں جو کام آتے ہیں

زندگی میں وہ سدا یاد آتے ہیں

میرے بھائیو! آج بھی اگر ہم رشتہ داریاں نبھائیں گے ہر ایک کو اس کا حق دیں گے تو  
اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی سکون والا بنائیں گے ہماری معاشرت کو پاکیزہ بنائیں گے  
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے  
خاندانوں میں میل جوں محبت مودت عطا فرمائے۔ آمین

وَصَلَى اللَّهُ سَلْمٌ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُدَى وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

وَآخْرُ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

## اقتباس

اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کا سہارا لے کر اللہ  
کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا تے ہیں جو کوئی داعی اور مبلغ  
قرآن پاک کے بغیر دعوت دے گا اس کی دعوت  
کامیاب نہیں ہوگی، اس لئے کہ قرآن ایک قانون ہے،  
ایک دستور ہے جس کو آگے کرنا ہوگا، اسی کو آگے بڑھا ہونا  
گا، قرآن پاک نے پندرہوں پارے میں ارشاد فرمایا کہ:  
**إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ :** کہ قرآن  
سید ہے راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور قرآن پاک مضبوط  
چیز ہے اس کے ذریعہ دو گے تو دعوت بھی مضبوط ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## قرآن پاک رشد و ہدایت کی کتاب ہے

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه  
 ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهدى الله فلا  
 مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده  
 لا شريك له ، ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلى  
 الله تبارك وتعالى عليه وعلى الله واصحابه و ازواجها و ذرياته و اهل  
 بيته و اهل طاعته و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً ، اما بعد فاعوذ  
 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ  
 يَهُدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ  
 لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالك  
 لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين :

## ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا

معزز بھائیو بزرگوار دوستو!

جب کوئی بڑی ہستی کسی شخص کو کسی قوم کی طرف اپنا نامانندہ بنا کر بھیجنی ہے تو اس کے ساتھ کچھ قوانین اور احکامات دیئے جاتے ہیں اور وہ شخص اس قوم میں جا کر انہی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتنا رات ساتھ میں یہ بھی کہدیا کہ: **إِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيْنَكُمْ مُّنِيْ هُدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَىٰ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ** : کتم سب زمین میں جاؤ جب تم زمین میں جاؤ گے تو تمہاری طرف و قافوناً قتاً ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان کی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد کو شیطان بہلانے پھسلانے اور صحیح راستہ سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے تھوڑی تھوڑی مدت پر ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔

## ہدایت کے دو سلسلے ہیں

اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی اصلاح کے لئے ہدایت کے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے اور ان بندوں کے ساتھ احکام اور کچھ قوانین کتاب یا صحفے کی شکل میں آسمان سے نازل فرماتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ

کی کتاب نہیں آتی صرف نبی آتا ہے۔

نبی اور رسول میں یہی فرق ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہو، لیکن اس کو کوئی مستقل کتاب اور دستور حیات نہ دیا گیا ہو، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے نبی اور رسول کے قانون کے مطابق اپنی قوم کی رہبری کرتا ہو، اور ایسا بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، اسی لئے رسولوں کی تعداد بہت کم ہے، اور نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب بھی دی ہو، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت علیؑ حضرت داؤؑ علیہم السلام کو مستقل کتابیں دی ہیں جن کو ہم تورات، انجیل اور زبور کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر اخیر میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو قرآن پاک کی شکل میں ہدایت نامہ ملا، اور ان کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت شیث اور حضرت آدم علیہم السلام کو ہدایت نامے ملے، اور بعض انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے اور اسی کے مطابق اپنی قوم کی رہبری کا حکم فرمایا تھا۔ لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس دنیا میں پیاسا نہیں رکھا جو بھی قوم صحیح راستے سے بھکٹی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ آتا ہے، اور پھر وہ اپنی قوم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لیجانے کی کوشش کرتا ہے۔

بہر حال جنت کی طرف لیجانے کا ایک راستہ تو رجال اللہ کا ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کو بھیج کر ہدایت کا کام کرواتے ہیں، اور ایک طریقہ ہے کتاب اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائے کر ہدایت کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں، ایسا تو بہت ہوا ہے کہ کتاب نہ آئی ہو لیکن

ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سمجھانے والا نہ آیا ہو، اس سے پتہ چلا کہ صرف کتاب انسان کی ہدایت کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سمجھانے والا بھی ضروری ہے، اگر صرف کتاب سے دین سمجھ میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے غلاف پر آئیں نازل فرمادیتے اور لوگ اس کو حاصل کر لیتے لیکن یہ طریقہ موثر نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو نہیں اختیار فرمایا بلکہ اسلامی تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پہلے نبی آیا بعد میں کتاب آئی پہلے محمد رسول اللہ آئے بعد میں قرآن آیا۔

## انبیاء مخصوص ہوتے ہیں

قرآن پاک کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو صاف سترہ، امانت دار پاک دامن بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ کل جب یہی محمد رسول اللہ دنیا والوں کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اور قرآن پاک کو ان کے سامنے پیش کرے تو یہ دنیا اس کو انوکھی چیز سمجھ کر نہ ٹھکرادے۔ بلکہ اس کو قبول کرے اسی لئے بچپن ہی سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے آپ ﷺ کی حفاظت کروائی گئی، اور تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی تما صغيرہ کبیرہ گناہوں سے پاک صاف رکھتا ہے۔

اور میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم ﷺ کی کسی حفاظت فرمائی، اس کا اندازہ آپ کو ایک واقعہ سن کر ہو گا حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا میرے چچا مجھ کو کسی پروگرام میں لے گئے وہاں گانا بجانا شروع ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی نیند طاری فرمادی کہ مجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور جب پورا فناشن ختم ہوا تب میری

آنکھ کھلی۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آپ کو اس گناہ سے بچالیا کہ نبی کے کان میں گانے کی آواز بھی نہیں جانے دی، نبی کا ستر بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا حتیٰ کہ نبی ﷺ جب استنجا کرنا چاہتے تھے تو چاروں طرف سے درخت وغیرہ آ کر حمام اور بیت الخلاء بن جاتے تھے بلکہ نبی کے استنجے کو دکھانا بھی اللہ تعالیٰ نے گوارہ نہیں کیا اسی لئے جب نبی استنجا فرماتے تھے تو زمین اس کو اپنے اندر نگل لیا کرتی تھی۔

### بیک وقت بہت سارے انبیاء

پہلے زمانہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے آپ نے سنایا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کی شکار تھی وہ لوگ بد فعلی کیا کرتے تھے مرد اپنی ضرورت مرد سے ہی پوری کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لئے فرشتے بھیجے تو ان فرشتوں سے فرمایا کہ درمیان میں ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے ان کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہوئے جانا۔ چونکہ ابھی تک حضرت سارہ علیہا السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لئے ان کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دینا تھی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتے جانا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک تھا۔

## امت محمد یہ ﷺ کی خصوصیت

لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور عجیب عنایت کا معاملہ فرمایا کہ آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا نبیوں والا کام نبیوں والی محنت اس امت پر ڈال دی گئی، اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ: عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَانُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں، اس امت کے علماء کی فضیلت کو بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ نبیوں کی ذمہ داری علماء کے اوپر دال دی گئی بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام کرتے تھے محمد رسول اللہ کی امت کے علماء وہ کام کریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کرام کو عرش پر بٹھائے گا سبحان اللہ۔ یہ اس امت کے علماء کا مقام ہے۔

## ملک کا بھی قانون ہوتا ہے

بہر حال۔ اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لئے رجال اللہ آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ قوانین ہو اکرتے ہیں جب بھی کوئی قوم بنتی ہے یا کوئی ملک بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قوانین مرتب کرتا ہے ہندوستان میں بھی جب ۱۹۴۷ء میں قانون بنانے کی ضرورت پڑی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بہترین دستور بنانے کا دریا۔ علماء کی ذات سے کبھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ابھی بھی لا بھر بھریوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب رات میں بارہ بجے ہندوستان آزاد ہوا تو اس زمانہ میں ہر بیکن نامی ایک اخبار لکھا کرتا تھا اس

اخبار میں گاندھی جی نے سرخ قلم سے یہ لکھ کر دیا تھا کہ اگر ہندوستان کی ترقی چاہتے ہو تو ہندوستان کو اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطابؓ کے طریقہ پر چلاو، اگر تم ہندوستان کو حضرت عمر بن خطابؓ کے قانون پر چلاو گے تو ہندوستان ترقی کی راہوں پر چلتا رہے گا۔

## قرآن کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی

بہر حال۔ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کا سہارا لے کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو کوئی داعی اور مبلغ قرآن پاک کے بغیر دعوت دے گا اس کی دعوت کامیاب ہونے والی نہیں، اس لئے کہ قرآن پاک ایک قانون ہے ایک دستور ہے جس کو آگے کرنا ہو گا اسی کو بڑھانا ہو گا قرآن پاک نے پندرہوں پارے میں ارشاد فرمایا کہ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ : کہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور قرآن پاک مضبوط چیز ہے، اس کے ذریعہ دعوت دو گے تو وہ دعوت بھی مضبوط ہو گی۔

## قرآن پاک کے لئے ہمارا انتخاب ہوا ہے

اور قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بھی خوشخبری سناتا ہے: أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا: کہ ان ماننے والوں کے لئے بہت بڑا اجر ہے، قرآن پاک کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے، دنیا میں کسی بھی شخص کو بڑا بنانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے الیکشن، اور دوسرا ہے سلیکشن، الیکشن اس کو کہتے ہیں جس میں سروں کو تو لا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک منتخب ہوتا ہے، اس کو الیکشن کہتے ہیں اور اس کے

بعد صدر کی حیثیت سے کسی ایک کو چنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سلیکشن اور جس کا سلیکشن ہوتا ہے لوگ اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اور اس کو اپنا ذمہ دار تسلیم کرتے ہیں، اور جس کا سلیکشن ہوتا ہے اس کا بھی فرض ہوتا ہے کہ قوم کے اعتماد پر اترے، قوم کے بھروسہ کو ٹھیک پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس قرآن پاک کی خدمت کے لئے ہمارا سلیکشن فرمایا ہے، ایکش نہیں فرمایا، قرآن پاک اس اعزاز کو بائیسویں پارے میں یوں بیان کرتا ہے: **ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا**: کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چند بندوں کو اپنی کتاب کی خدمت کے لئے منتخب کیا اور چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ: **أَللَّهُ يَصُطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ**: اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن لیا ہے ہر وہ آدمی جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن والے گھر میں پیدا فرمایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کے لئے چنان ہے، اب اس کا یہ کام ہے کہ وہ دل و دماغ سے سوچ کے میں نے اس انتخاب کا کتنا حق ادا کیا؟ کیا میں قرآن پاک کی خدمت پر اترایا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے قرآن پاک کی خدمت کا حق ادا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تو میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھ کو کتاب عطا فرمائی میں جزیرہ العرب سے کو سوں دور ہوں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا مجھ سے اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔

### بے طلب عہدہ میں برکت ہوتی ہے

اسی لئے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی کو اپنی طرف سے منتخب کر کے کرسی پر بٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے اور جب کوئی بنده عہدہ

کامطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے صدر بنادو، مجھے فلاں عہدہ دید و تو حدیث میں جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: فَقَدْ ذُبَحَ بِغَيْرِ سِكْنٍ: عہدہ خود سے مانگنے والے کو گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی شخص کا انتخاب قوم خود کرتی ہے اس کو منصب پر بٹھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس امت کو اللہ نے خیر الامم بنایا اور ہم نے اس خیر امت کے عہدہ کامطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عہدہ عطا فرمایا ہے، اس لئے اگر ہم اس عہدے کو سنبھالتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب مدد اور برکت ہوگی۔

## انسان حامل قرآن ہے

قرآن پاک وہ امانت ہے جس کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا گیا تھا لیکن سب نے انکار کیا انسان نے اس امانت کو قبول کیا جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ: کہ اس قرآن کو دنیا کی مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو اٹھالیا مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ احد نامی ایک پہاڑ ہے جہاں غزوہ احمد ہوا تھا جو عرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جب اس پہاڑ پر جناب نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رض کھڑے تھے تو وہ پہاڑ ملنے لگا اس لئے کہ اس پہاڑ پر قرآن پاک کے حاملین کھڑے ہیں اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا تھا اتنا عظیم ہے یہ قرآن۔ سبحان اللہ

## اللہ تعالیٰ کی شکایت

لیکن انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کو سمجھے، اور اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اسی کتاب مقدس کے طریقے پر چلائے، لیکن آج انسانیت نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِي الشَّكُورُ : کہ میرے بندوں کو میں نعمتیں دے رہا ہوں لیکن میرے بندے نا شکری ہی کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو اس قرآن پاک کے لئے منتخب کیا لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پاک پر عمل نہ کر کے اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں جس کو فرمایا : فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان بندوں میں سے بعض لوگ درمیانی راہ پر چل رہے ہیں : وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور کچھ لوگ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں : مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ : اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔

## تلاؤت عمل کے لئے ہو

اور دیکھو! تلاؤت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتا عربی زبان میں تلاؤت کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا چیز کا آنا تلاؤت کو تلاؤت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَنَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

الصَّلْوَةَ اس آیت پاک میں تلاوت کے بعد اقامت صلوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا کہ: وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً: کہ وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے چپکے چپکے اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ: يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ: کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں آئے گا۔ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں تین چیزیں بسا لی وہ کبھی گھاٹا نہیں کھائے گا۔ نمبر ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، جس نے یہ تیوں چیزیں ادا کی اس کی ایمانی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا بلکہ قرآن پاک آگے کہتا ہے کہ: لِيُوَفِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ: کہ بدلتہ تو پورا ملے گا ہی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے گا۔

میرے بھائیو! کبھی ذرا سوچیں کہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ اتنی بڑی کتاب کو اٹھائیں یہ تو محض اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو اس قابل بنایا کہ ہماری زبان پر پانی کی طرح اس قرآن کو جاری فرمایا، ہمارے جامعہ اکل کو ایک طالب علم ہے جس نے چار ماہ کی قلیل مدت میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور اس نے ڈھانی ہزار حیدشیں بھی یاد کی ہیں وہ بچہ جس کو اس کی مادری زبان صحیح بولنا نہیں آتی ہے لیکن اس کی زبان پر قرآن پاک پانی کی طرح جاری ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کو ایسے بچے عنایت فرمائیہ تلا ناچاہتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے دماغ کو بہت تیز بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ایسے بچوں کا ستممال صحیح کرتے ہو یا نہیں؟ لہذا

ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کا صحیح استعمال کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں۔

## گجراتی قوم کا عمل

الحمد للہ اس بات کہنے میں کوئی تردداً و تأمل نہیں ہے کہ ہماری گجراتی قوم نے اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ برابر لگائے رکھا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یورپ پر جیسے ملک میں بھی قرآن پاک کے پڑھنے والے آپ ہی کے گھروں میں پیدا فرمائے، اور ہمارے پیچھے ہمارے باپ داداؤں کی محنت ہے جنہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ جہاں بھی جاؤ سب سے پہلے اسلامی علوم کی فکر کریں، اور ان سب بالقوں کی روشنی میں یہ بات یقینی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں اور زیادہ ترقی کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کتنے ہی لوگوں کو ختم کرو گے کتنی ہی مسجدیں گراؤ گے، اور کتنا ہی اس قرآن پر پابندی لگاؤ گے یہ قرآن تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے تراویح میں کسی حافظ کی مجال نہیں کہ واو کے بجائے فا پڑھ دے، قرآن پاک کی حفاظت تو آسمان سے ہو رہی ہے، کسی میں اس کو مٹانے کی مجال نہیں، قرآن پاک نے بہت پہلے اس کا وعدہ فرمایا ہے: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمٌ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ: کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونک کے ذریعہ مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔

## اپنی نسل کو قرآن پاک سے جوڑ بیئے

میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے باپ داداؤں نے محنت کر کے اس قرآن

کریم کو ہم تک پہنچایا ہم بھی اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہماری نسل اس قرآن پاک سے محبت کرنے والی بنے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن پاک سے جوڑ لیا تو آپ کو اپنی نسل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے اپنی نسل کا ذہن دینی بنالیا ان کے دماغ میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دی، تو چاہے اس پر کتنے ہی مغرب کے طوفان چلے، اس کا کوئی بال بانکا بھی نہیں کر سکتا، الحمد للہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان جیسے ملک میں عمامہ باندھ کر مسلمان کمپنی میں جاتا ہے اور اس کو سب لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

## کامیاب شخص

اور جو اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کی ایک سادہ مثال لے لو، لکڑی کی رحال جس پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے وہ تو لکڑی ہے لیکن اس لکڑی نے اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑا تو لوگ اس کا بھی ادب کرتے ہیں اس کو بھی خوب سو لگاتے ہیں اس کو اوپر رکھتے ہیں کپڑے کا جز دان جس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس کو بھی ادب و احترام سے لوگ چھوتے ہیں بلکہ ایک کاغذ جس پر قرآن لکھا جاتا ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے حالانکہ یہ سب چیزیں بے جان ہیں انسان اگر اس قرآن سے جڑ جائیگا تو اس کے احترام کا اندازہ ہم نہیں لگ سکتے اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائیں گے۔

## رمضان کا پیغام

اور میرے بھائیو! رمضان میں جہاں بہت سے پیغامات ہیں وہیں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے احکام اور اس کے فرائیں پر عمل کیا جائے رمضان میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو، اس کے بعد دیکھو زندگی جینے میں کیسا مزا آتا ہے، زندگی میں ایسا مزا آتا ہے کہ آدمی ہر وقت یوں محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے ہیں، انسان اگر قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا رشیتہ قرآن پاک سے مضبوط فرمائے آمین۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبَاءِ جَمِيعِينَ

وَآخِرُ دُعَوَاتِنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

## غصہ سے پرہیز کجھے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم .

اما بعد :

## غصہ برداشت کرنے کی فضیلت

محترم بھائیو، بزرگو، اور دوستو!

انسان دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتا ہے، دوران سلوک جب اس کے ساتھ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اس غصہ کو انسان عمل میں لاتا ہے اور اس غصہ کے مطابق عمل کرتا ہے تو آپس میں جھگڑوں اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ﷺ نے غصہ پی جانے اور برداشت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

## غصہ پینے کا طریقہ

لیکن ایک سوال ہے کہ غصہ انسان کی فطری چیز ہے کبھی کبھی انسان غصہ پینا چاہتا ہے پھر کبھی وہ نہیں پی پاتا، اور وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو غصہ پینے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور ﷺ نے اس کا بھی علاج بیان فرمایا ہے، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ دوآدمی

آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کو حضور ﷺ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتلاتا ہوں جو بھی شخص اس کو پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کہدے اللهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم جس ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔

## غصہ کو شیطان سے کیا تعلق؟

حدیث پاک میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو انسان کو چاہیئے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے سوال یہ ہے کہ غصہ کو شیطان سے کیا تعلق ہے کہ غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے شیطان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ غصہ شیطان کا ہی اثر ہے اور غصہ وہی دلاتا ہے اسی لئے شیطان سب سے زیادہ لوگوں کے جھگڑے پر خوش ہوتا ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں شیطان ان سب باتوں سے خوش ہوتا ہے، اس لئے کہ شیطان کی مراد انہی چیزوں سے پوری ہوتی ہے اور جب غصہ کے وقت انسان شیطان کے شر سے حفاظت چاہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان آگ سے بناء ہے اور غصہ کا تعلق بھی آگ سے ہے، اسی لئے آگ کا کلر بھی لال ہوتا ہے اور انسان بھی غصہ میں لال ہو جاتا ہے بہر حال شیطان کے غصہ کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیئے۔

## غصہ ختم کرنے کا دوسرا طریقہ

اور اگر اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کے باوجود غصہ پر کنٹرول نہ ہو تو دوسرا ایک طریقہ بھی اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جا کر وضو کر لے، اس لئے کہ وضو شیطان کے اثر کو دور کر دیتا ہے، اور دیکھو غصہ میں گرمی ہے اور وضو میں ٹھنڈک ہے، اسی لئے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مزاج بہت تیز ہوتا ہے اس کو بی پی کی بیماری بھی بہت جلد ہو جاتی ہے، اور جن کو بی پی کی بیماری ہے ڈاکٹر لوگ ان کو جہاں دوائی دیتے ہیں، وہیں اس بات کی تاکید بھی کر دیتے ہیں کہ کسی بات کا ٹینشن مت لینا۔

اور اس کی فیملی کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹینشن والی باتیں نہ بتانا، اس لئے کہ اگر ٹینشن آئے گا تو اس کا غصہ بھڑک کے گا، اور جب غصہ آتا ہے تو خون بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اسی لئے آپ نے دیکھا ہو گا کہ سر دی کے موسم میں بہنے والی چیزیں بھی جم جاتی ہیں اور گرمی کے موسم میں جمنے والی چیزیں بھی بہہ جاتی ہیں اور غصہ میں گرمی ہے پہنچا کے جب انسان غصہ میں آتا ہے تو اس کا خون بہت تیزی سے بہنگلتا ہے، اور جب خون تیزی کے ساتھ بہتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رگ نہ پھٹ جائے اسی لئے بعض دفعہ لوگوں کی زندگی باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رگ کے پریشر کوناک کے راستے خون کے ذریعہ بہا دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی یہ تو گرمی کی وجہ سے پھوٹی، اسی لئے نکسیر عموماً گرمی میں ہی پھوٹا کرتی ہے سردی میں یہ مرض بہت کم ہوتا ہے۔

اور پانی بھی جب تیز رفتار سے چلتا ہے تو پائپ کو پھاڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ کی کمال فراست کو داد دینی چاہئے کہ جہاں آپ ﷺ نبی تھے وہیں بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے کہ آپ ﷺ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ آدمی جب غصہ میں آئے گا تو اس کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی اور اس کی رگوں میں خون تیزی کے ساتھ نہ ہے گا، اس لئے ایسے موقعہ پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے خون کو ٹھنڈا کیا جائے، اور ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وضو کرنے کا حکم دیا جائے۔ تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور اس کا علاج بھی ہو جائے، اس لئے پرانے لوگوں کو آپ دیکھنے کے جب کسی کی نکسیر پھٹوتی ہے تو وہ اس کے سر پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ پانی اس کو ٹھنڈک پہنچائے، اور اس کے خون کی رفتار کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے چودہ سوال پہلے یہ علاج تجویز فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لے اس لئے کہ آدمی جب وضو کرے گا تو اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائیگی۔ جزی اللہ عننا نبینا

محمدًا ما هو اهلہ صلی اللہ علیہ وسلم

## غضہ کم کرنے کا تیسرا طریقہ

اور غصہ کم کرنے کا تیسرا طریقہ جناب نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی حالت بدل دے، اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو غصہ آگیا تو وہ کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے غصہ کی حالت میں انسان ایک ہی حالت پر رہے تو ممکن ہے وہ کسی کو مار دیگا حالت بدلتا ہے تو حالت بدلنے کی بنا پر اس کے اندر صبر پیدا ہو گا۔ سجان اللہ اس طرح دقيق سے دقيق با تیں اسلام بیان کرتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر غصہ آرہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔

## واقعہ

امام زین العابدین<sup>ر</sup> ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کا سلسلہ نسب حضور پاک ﷺ کے خاندان سے جا کر ملتا ہے جن کو اہل بیت کہتے ہیں تو ان کی باندی ایک مرتبہ ان کے لئے وضو کا پانی ڈال رہی تھی، اور امام زین العابدین<sup>ر</sup> وضو فرمائے تھے، اس دوران باندی کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، اور امام زین العابدین<sup>ر</sup> کو معمولی چوت آگئی، تو وہ غصہ ہو گئے، اور باندی کی طرف دیکھنے لگے، اس باندی نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ: کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں وہ لوگ شریعت کو مانے والے تھے انہوں نے فوراً کہا کَظَمْتُ غَيْظِی: میں اپنا غصہ پی گیا، باندی بھی بہت ہوشیار تھی اس لئے کہ وہ کسی اور کی نہیں امام زین العابدین<sup>ر</sup> کی باندی تھی، اس نے دل میں سوچا کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تو اس کا اتنا اچھا اثر ہوا، اس نے اسی آیت کا آگے کا ایک اور قطعہ پیش کیا: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ: کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس باندی نے اشارہ کیا کہ مجھے معاف بھی کر دو، اس لئے کہ انسان غصہ تو پی جاتا ہے لیکن دو چار دن بعد یا کسی وقت اس کو یاد آگیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ غصہ آئے یا اس کا طعنہ مارے، اس لئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، یعنی اس بات کو دل سے نکال دو، اتنا کہنا تھا کہ امام زین العابدین<sup>ر</sup> نے فرمایا قد عفوٰ، میں نے تجھ کو معاف کر دیا وہ بہت ہوشیار تھی اس نے اسی آیت کا آگے کا جملہ پیش کیا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ

نے میری خاطر غصہ پی لیا مجھ کو معاف بھی کیا اب مجھ پر احسان بھی کیجئے اور اس وقت احسان کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ کو آزاد کر دو، فوراً امام زین العابدینؑ نے فرمایا کہ قَدْ أَحَسِنْتُ إِلَيْكِ میں نے تیری طرف احسان کیا اور اے باندی تجھے آزاد کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے انہوں نے فوراً اس پر احسان کیا اس واقعہ سے چند سبق ملتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت کی عورتیں بھی حافظہ ہوا کرتی تھیں اسی لئے تو باندی یکے بعد دیگرے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہی تھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن پاک کو سب سے مقدم رکھا کرتے تھے۔

## قرآن سب سے مقدم

ہمارے اسلاف قرآن پاک کو سب سے مقدم رکھا کرتے تھے چاہے معاملہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ فوراً خاموش ہو جاتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہمارے سامنے کتنا ہی قرآن پاک کے احکامات سنائے جائیں ہم کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے مگر عورتیں نہیں مان رہی ہیں، امام زین العابدینؑ نے فوراً عمل کیا، حالانکہ باندی کی قیمت معمولی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے عملی انداز میں قرآن پاک کو اپنایا تھا، حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھئے! ایک مرتبہ آپ منبر پر مہر کے سلسلہ میں وعظ فرمارہے تھے، ایک بڑھیا نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اس لئے قرآن پاک دوسری بات کہتا ہے۔ حضرت عمرؓ فوراً منبر سے اتر گئے کہ قرآن پاک کی بات ہی صحیح ہے۔ شریعت بہت آسان ہے

ہمیں نبھانا آنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ آسان چیز کو اختیار فرماتے، شرط یہ ہے کہ اس چیز کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم نہ آتی ہو۔ جب حضور ﷺ کا نظر یہ ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی شریعت بھی آسان ہی ہوگی۔

## اپنی ذات کا بدلہ نہ لیں

غصہ آنا فطری بات ہے لیکن جب آپ کو غصہ آئے تو بدلہ لینے کا مست سوچئے کہ چاہے اب کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے مکان کیوں نہ بیچنا پڑے میں اس کو سبق سکھا کے رہوں گا، اس طرح نہ سوچیں اسلام نے بدلہ نہ لینے کی تعلیم دی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو کامل انسان ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا، الْوَالِي لَا يَكُونُ مُنْتَقِمًا لِنَفْسِهِ کو ولی کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جناب نبی اکرم ﷺ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ ﷺ کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے تو اللہ کے رسول ﷺ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

## بلندی اخلاق کا اثر

اخلاق جب بلند ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، اور یہود مسلمانوں کے کٹر دشمن ہوتے ہیں، آپ ﷺ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، اور صرف خیریت نہیں پوچھی بلکہ اس کو کلمہ کی تلقین فرمائی، اس بچہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے

کہنے کے مطابق کلمہ پڑھو یا نہیں؟ اس کے باپ نے اجازت دی، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ مسلمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں بلکہ آپ ﷺ کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے بدله نہیں لیا، لیکن جب دین کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو حضور ﷺ اتنا غصہ ہو جاتے کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ کہے۔

## خوشی اور عنی اللہ کے لئے ہو

اللہ کے رسول ﷺ کا غصہ اللہ کے لئے ہوا کرتا تھا، امام بخاریؓ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ: آیۃ الْإِیمَانُ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِی اللَّهِ کہ اللہ کا حکم ٹوٹے تو غصہ آئے، اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے آدمی کو غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان کمزور ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بچے ناجائز ضد کرتے ہیں، اور ماں باپ خوشی سے ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں بیٹا باپ کے سامنے حدود اللہ کو توڑتا ہے بیٹا باپ کے سامنے غلط لباس کا استعمال کرتا ہے، باپ کے سامنے ڈاڑھی منڈھاتا ہے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں یہاں تو غصہ کا مقام ہے، لیکن آپ غصہ نہیں کر رہے ہیں اپنی بھی آخرت خراب، اور اس کی بھی خراب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے لئے غصہ آنا چاہیے۔

## واقعہ

میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت علیؓ کسی غزوہ میں ایک پہلوان پر چڑھ بیٹھے، اس دوران اس نے حضرت علیؓ کے چہرہ انور پر تھوک دیا آپؐ اس کے اوپ سے اٹھ گئے اور فرمایا کہ اب تک میرا غصہ اللہ کے لئے تھا بچونکہ اس نے میرے اوپ تھوک دیا ہے، اگر اب تجھ کو ماروں گا تو کہیں ذاتی انتقام کا شانہ پیدا نہ ہو، اس لئے میں اٹھ گیا، جنگ میں دشمن کو مات دینا معمولی کام نہیں اور بطور خاص اس وقت جب کہ اس کو پچھاڑ دیا ہو، یہ اللہ والا ہی کر سکتا ہے پتہ چلا کہ اللہ کے لئے غصہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لئے۔

## آپ ﷺ کا بلند مقام

اور ایک بات بتلاتا چلوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ درود شریف یہ ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى إِلَهِ وَسَلِّمٍ تَسْلِيمًا: میرے بھائیو! اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے، بلکہ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو اس دنیا کا وجود بھی نہ ہوتا جس کو کسی نے کہا ہے کہ لَوْلَاكَ لَمَاخَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ کہا محمد ﷺ اگر آپ نہ

ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو وجود نہ بخشتا، پتہ چلا کہ اس پوری کائنات کا مدارِ المحام آپ ﷺ کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس درود پاک کو اپنی زندگی میں باقی رکھا ہے، اور مدارس اسلامیہ میں الحمد للہ آج بھی اس پر عمل ہے، میں نے جامعہ اکل کو اور اس کی فروعات میں دیکھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد طلباء اپنی جگہوں سے نہیں ہٹتے ہیں جب تک وہ یہ درود شریف نہ پڑھ لیں، یہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، روایت پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر درود شریف بھیجنتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہے اور وہ فرشتہ حضور ﷺ سے کہتا ہے کہ فلاں نام کا آپ کا یہ امتی ہے اور اس کے ابا کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، جتنی مرتبہ درود پڑھو گے اتنی مرتبہ تعلق مضبوط ہوگا اور جب تعلق مضبوط ہوگا تو نبی کریم ﷺ والی صفات ہمارے اندر آئے گی آپ ﷺ کے اخلاق ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔

اگرچہ آپ ﷺ سب سے اخیر میں اس دنیا میں تشریف لائے لیکن ان کا وجود سب سے پہلے ہوا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ۲۱ کُنْتُ نَبِيًّا وَآدُمْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطَّيْنِ، کہ میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے ہی درمیان تھے، دیکھئے صدر جلسہ سب سے اخیر میں آتا ہے لیکن اس کا انتخاب سب سے پہلے ہو جاتا ہے، تو آپ ﷺ اس کائنات کے صدر ہے۔

## انبیاء کرام سے عہد

اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم ﷺ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے سلسلہ میں تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا ہے، قرآن پاک نے اس کو سمجھایا ہے، ارشاد ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَتَضَرُّنَّهُ: کہ اے انبیاء کی جماعت! ایک نبی آئے گا اگر وہ تمہارے دور میں بھی آئے تو تم اپنی اپنی رسالت کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا۔

## شان رسالت کا تقدیر

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بلند فرمایا کہ کوئی آپ ﷺ کا استاذ بنے اور آپ ﷺ کسی کے شاگرد بنے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گوارہ نہیں فرمایا اسی لئے آپ ﷺ کو اُمی ہی رکھا، اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام جناب نبی کریم ﷺ کے پاس مکالمہ کرنے کے لئے آئے تو دوز انو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوز انو بیٹھنے کا حکم اس لئے دیا کہ تاکہ دنیا والوں کے سامنے جناب نبی اکرم ﷺ کی عظمت اور آپ ﷺ کے مقام اور مرتبہ کو بتلا یا جائے۔

بلکہ حفاظت قرآن کے سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم ﷺ کا اتنا خیال فرمایا کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ ﷺ آیت کے نازل

ہونے کے بعد اس کو بار بار دھراتے تھے تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو گھبرا نے کی ضرورت نہیں اس قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنٌ، اور ایک جگہ فرمایا کہ سَنْقُرُءُ کَ فَلَاتَّنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو نہیں بھولیں گے اس لئے کہ ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بلند مقام ہے ہمارے نبی ﷺ کا اور اسی بلند و بالا مقام کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ مراجِ کروائی، بیت المقدس لے گئے، وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، آپ ﷺ نے ان سب کی امامت فرمائی، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی ﷺ کا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے اس امامت کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ تمہارے اصل امام یہی ہے، امام الانبیاء ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

## آپ ﷺ رسولوں اور نبیوں کے لئے شاہد ہیں

قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام کی توثیق آپ ﷺ کی گواہی پر موقوف ہو گی جب تمام قویں اپنے اپنے انبیاء اور رسول کو جھٹلا دیں گی اور کہیں گی کہ: مَاجَأَنَا بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ.

کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ﷺ ان کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیں گے اور ان کی تصدیق ہو جائے گی۔

## معراج کا تحفہ

اور آپ ﷺ کی عظمت پر مشتمل ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ جب آپ ﷺ مراج پر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے نذرانہ پیش کیا اس لئے کہ یہ اصول ہے کہ جب انسان کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ کے رسول ﷺ نے بھی نذرانہ پیش کیا اور کہا: التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ کہ تمام جانی اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتُهُ** کہاے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا اللہ کے رسول ﷺ تو رحمۃ اللعالمین تھے گوارہ نہیں فرمایا کہ اس وقت میری امت محروم رہے اس لئے فوراً کہا **السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ** کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، چاہے وہ نیک بندے اس امت کے ہو یا پچھلی امت کے ہو۔

## واقعہ

بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور پاک ﷺ کی خدمت کی، ان میں سے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے اخلاق سب سے اچھے تھے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ

النَّاسِ خُلْقًا: اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو کسی کام سے بھیجا کہ انس جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ، حضرت انسؓ نے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں یہ بات تھی میں حضور ﷺ کا کام ضرور کروں گا اور انکار کا منشایہ تھا کہ آپ ﷺ بار بار پیار کے انداز میں مجھ سے کہتے رہے کہ جاؤ کام کر کے آؤ۔

بہر حال حضرت انسؓ اس کام کے لئے گئے اور چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس کام کے لئے ان کو بھیجا جاتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ تالاب پر چلے جاتے ہیں، حضرت انسؓ جب کام کے لئے نکلے تو مدینہ کی ٹوگلی میں چند بچے راستہ میں کھیل رہے تھے، حضرت انسؓ بھی ان کے ساتھ کھیل میں لگ گئے ادھر اللہ کے رسول ﷺ انتظار فرماتے رہے کہ انس اب آئیں گے جب آئیں گے، ہتوڑی دیر بعد خود حضور اکرم ﷺ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انسؓ تو ٹوگلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔

ہم اور آپ کے جیسا ہوتا تو پہ نہیں کیا کیا کہدیتا کم از کم اتنا تو ضرور کہتا کہ تم کام کے لا اُن نہیں ہو، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے قریب آئے میرے کندھے پر ہاتھ پھر کر پھر ایا میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو میرے کندھے پر ہاتھ پھر ارہے ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول ﷺ میرے پیچھے کھڑے مسکرا رہے ہیں پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ انسؓ میں نے تو تمہیں کام کے لئے

بھیجا تھا تم تو کھیل میں مصروف ہو گئے جاؤ بھی کام کر کے آؤ۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول ﷺ کی نویاد سال تک خدمت کی لیکن جب مجھ سے غلطی ہو جاتی تو کبھی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کام کیوں کیا؟ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر تھوڑا بھی نمک زیادہ گرجاتا ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں مسجد میں ذرا سی دیر ہو جاتی ہے تو مقتدی آسمان وزمین ایک کر لیتے ہیں، صحابہ کرام تو حضور ﷺ کی ڈانٹ پر خوش ہوتے تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے نہیں ڈانٹ اعرابی کی کہاوت ہے: ضَرُبُ الْحَبِيبِ مِثْلِ أَكْلِ الزَّبِيبِ مَحْبُوبٌ كَمَا رَشَّشَ كَمَا رَنَّدَ.

### امت کو تعلیم دینا مقصود ہے

آپ دیکھئے کہ پیارے نبی ﷺ کا انداز کتنا پیارا تھا کہ آپ ﷺ نے حضرت انسؓ کو نہیں ڈانٹا اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اگر کوئی استاذ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور آگے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضور ﷺ کی منشاء کے خلاف کام کرتا تھا لیکن آپ ﷺ کچھ نہیں فرماتے تھے حضور ﷺ کو حکم کچھ اور فرماتے تھے اور میں اپنے بچپن کی وجہ سے کچھ اور ہی کام کر لیا کرتا تھا لیکن آپ ﷺ نے مجھ کو کچھ نہیں کہا۔

## نرم مزاج اختیار کریں

ہمیں چاہیے کہ ہم نرم مزاجی اختیار کریں جو شخص غصہ برداشت کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل ہوتا ہے، اور غصہ پی جانا ولی ہونے کی علامت ہے جہاں انسان نمازوں کی پابندی سے ذکر رواذ کار سے قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہیں پر معاملات کو اس میں بہت بڑا دخل ہے اس کے بغیر انسان ولایت کے معیار کو نہیں پہنچ سکتا، ولایت کا معیار معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں، غصیالہ مزاج اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

## قدرت کے باوجود معاف کرنا افضل ہے

ایک تو ہوتا ہے کسی بڑے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور اس سے آپ بدل نہیں لے سکتے، اس لئے آپ نے معاف کر دیا اس لئے کہ آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس طرح معاف کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ثواب تو اس کا بھی ملے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی بھرپور طاقت ہے اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر قادر ہے لیکن اس کے باوجود معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا کہ: وَكَانَ اللَّهُ عَفُواْ قَدِيرًا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے قدرت رکھنے والی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے قدرت والی صفت کو ذکر فرمایا کہ یہی تعلیم

دی ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا بڑے جگہ گردے کی بات ہے۔ اور جس کو یہ گرمل گیا تو اس نے دنیا و آخرت کی بڑے کامیابی کو حاصل کی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہم سب لوگوں کو یہ مزاج اپنانا چاہیے۔

## معاف کرنے کی فضیلت

اور غصہ پینے اور معاف کرنے کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آتی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا جناب نبی اکرم ﷺ نے کہ جس نے غصہ پی لیا اور قدرت ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حوروں میں اختیار دیں گے، اور فرمائیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں ان میں سے جس کو چاہو لے لو۔

## واقعہ

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی ہمیشہ آپ کو براہی کہتا ہے، ان اللہ والوں نے کہا کہ اللہ اس کو نیک بدلہ دے، اس نے کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہو، فرمایا کہ وہ احسان ہی تو کر رہا ہے کہ میری برائی کر کے اپنے کھاتے کی نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ غیبت چغلی ان سب چیزوں سے انسان کی نیکیاں جائع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جناب نبی اکرم ﷺ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## عجیب و غریب واقعہ

نسائی شریف کی ایک روایت میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کسی غریب کا نام لئے بغیر اس کی مدد کرتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک صحابیؓ ایسے تھے کہ ان کی حالت بتا رہی تھی یہ بہت غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کی مدد کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضور ﷺ اعلان فرماتے کہ تم لوگ اس شخص کی مدد کرو، اور اس طرح کرنے میں اس کے دل کو تکلیف ہو سکتی تھی، اس لئے کہ عزت نفس سب کو پیاری ہے، اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے چاہا کہ ان کی مدد بھی کی جائے اور عزت نفس پر کوئی داغ دھبہ بھی نہ آئے، اس دوران اللہ کے رسول ﷺ نے خطبہ روک دیا اور ان صحابی سے کہا کہ: **فَمُؤْمِنٌ** : کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، اس لئے کہم نے نمازوں پر بھی (تحیۃ المسجد وغیرہ) یہ تجب و الی بات تھی، اس لئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا خطبہ روک دینا ہی کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور ان کو نمازوں پڑھنے کے لئے کہنا قابل تجب تھا، سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، اور ان کی نماز ہونے تک اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے خطبہ کو روک کر کھا، اور جیسے ہی ان کی نماز ہو گئی حضور ﷺ نے خطبہ کا مضمون بدلتا دیا، اور پہلے خطبہ کسی اور مضمون پر تھا، ان کی نماز کے بعد اللہ کے رسول ﷺ نے غریبوں مسکینوں اور تیمبوں کی مدد پر خطبہ دینا شروع کر دیا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور ﷺ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں جیسے ہی نماز پوری ہوئی صحابہ کرام نے اتنا چندہ دینا شروع کر دیا کہ ان صحابی کے سامنے پورا ڈھیر جمع ہو گیا، آپ ﷺ کی عقائدی دیکھنے

کہ آپ ﷺ نے ان کا نام نہیں لیا اگر آپ ﷺ ان کا نام لیتے تو ان کو تکلیف ہوتی، کتنے اچھے انداز سے اللہ کے رسول ﷺ نے دونوں کام انجام دیئے۔ اسی لئے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے بلکہ اس کو ہدیہ کہہ کر بھی دینا جائز ہے، اس لئے کہ اگر زکوٰۃ کا نام لیں گے تو اس کو دلی تکلیف ہو گی۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے۔

### حیاء کا واقعہ

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ اللہ کے رسول ﷺ کا گزر ہوا تو ایک شخص اپنی قوم میں حیاء کے عنوان پر تقریر کر رہا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ حیاء اختیار کرے، یہ سن کر اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ بھی کوئی نصیحت کرنے کی چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیاء تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، وہ ایمان کی طرح ہر وقت سامنے ہونا چاہیے۔

### اللہ تعالیٰ سے حیاء کا مطلب

بیہقی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ **إسْتَحِيُو أَبِاللَّهِ حَقَّ الْحَيَاةِ**، اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا اس سے شرم کرنے کا حق ہے، صحابہ کرام نے کہا **إِنَّا نَسْتَحِيِّ مِنَ اللَّهِ يَأْنَبَيِّ اللَّهِ** کاے اللہ کے رسول ﷺ ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو شرمن سمجھ رہے ہو وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کا یہ مطلب ہے کہ یہ سراللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے ناجھک، اس سرکوشٹرک سے پاک رکھا جائے بلکہ اسلام نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کسی کو جھک کر سلام کرے تو حید اسلام کی بنیادی چیز ہے جس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔

## سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے

اسلام کے تاجدار جن کے صدقہ طفیل میں اس دنیا کا وجود ہوا، ان کے سامنے بھی اسلام نے سرجھ کانے کی اجازت نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ اپنے دربار میں آتا ہے تو دوسرا قومیں اس کا جھک کر استقبال کرتی ہیں آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں کیوں نہ ہم آپ کو جھک کر سلام کریں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا میرے بھائیو! ہمارے سرانتے سے نہیں ہیں کہ کسی کے بھی سامنے جھک جائے، ہمارا سر صرف اور صرف اللہ کے آگے ہی جھکے گا اور یہی اس کی جگہ ہے اور یہی اس کا حق ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سرٹیکنا بڑا شرک ہے۔

## ریاء کاری سے بچئے

اور ایک ہے چھوٹا شرک یعنی کسی عمل کو غیر اللہ کے لئے کرنا، جس کو ریاء

کاری کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ کہ میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف رکتا ہوں، نیز اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تمہاری رگوں میں ایسے دوڑے گا جیسے کہ چیونٹی دوڑتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ چیونٹی چل رہی ہے یا نہیں۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مَنْ صَلَى وَرَاءَ فَقَدْ أَشْرَكَ: جس نے کسی کو دھلانے کے لئے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اس نے شرک کیا۔ اس لئے ہم جتنے اعمال کریں خالص اللہ ہی کے لئے کریں۔

### ریاء کاری کا انجام

قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھ کو دنیا میں طاقت دی تھی تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا لوگوں کو مارا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تو نے اس لئے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور جس کے لئے تو نے کیا وہ تجھے مل گیا یعنی تو بہادر کہلا یا گیا، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسی طرح ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے علم کو سیکھا، اللہ فرمائیں گے تو نے اس لئے علم سیکھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں، اور تو علامہ کہدیا گیا اب تیراٹھ کانہ بھی جہنم ہے۔ پھر ایک سخنی کو بلایا جائے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں

تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستہ میں اس مال کو خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لئے تو نے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سختی کہیں، وہ تجھے دنیا میں کہدیا گیا، اب تیراٹھ کانہ جہنم ہے اس لئے میرے بھائیو! ہم صرف اپنے اعمال اللہ ہی کے لئے کریں۔

## ایمان کے ستر سے زائد شعبہ ہیں

اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ **الْإِيمَانُ بَضْعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً وَالْحَيَاةُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ** کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبہ ہیں ان میں سب افضل لا اله الا الله کہنا ہے اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہشاد دینا اور حیاء کا ایمان کا شعبہ ہے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حیاء ایمان کا شعبہ ہے، لہذا حیاء کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے، آج کل بے حیائی کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں دیکھو، بغیر کسی شرم و حیاء کے عورتیں گھوم رہی ہیں مردوں میں بے شرم غالب آگئی، میرے بھائیو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔

## اللہ سے حیا کیجئے

اور لگے ہاتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان سب کے سامنے کوئی غلط کام کرنے سے شرما تاہے، اور وہی غلطی تہائی میں جا کر کرتا ہے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کے خلاف ہے، جب اللہ تعالیٰ سے حیاء ہوگی تو

انسان تہائی میں بھی غلط کاموں سے بچے گا، جلوت اور خلوت ہر جگہ وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک رکھے گا، اسی لئے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جلوت اور خلوت ہر جگہ با ادب رہا کرتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ پیر پھیلائیں۔

### حیاء کیسے پیدا ہوگی

اور حیاء کیسے پیدا ہوگی؟ چنانچہ جنید بغدادیؒ جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت! حیاء کیسے پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ آدمی دو کام کر لے، اس کے اندر حیاء پیدا ہو جائیگی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، دوسرے یہ کہ ان نعمتوں کے مقابلہ میں اپنی طرف سے ہونے والے شکر میں کمی کا احساس کرے یعنی یہ سوچے کہ اے اللہ مجھے تیرا جس طرح اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کرسکا۔

### قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کے واسطے سے کئی صدیوں کے بعد ہندوستان میں علم حدیث پہنچا، انہوں نے الغوز الکبیر نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے اپنے علوم کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے ایک التذکیر بالاِ اللہ ہے یعنی قرآن پاک اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے مثلاً : یَا اَيُّهَا النَّاسُ

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّسِّعُونَ کاے  
 لوگو پنے رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا  
 کیا، اور فرمایا کہ: وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ  
 قُلُوبِكُمْ ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے  
 تمہارے دلوں کو جوڑا، اور تم بھائی بھائی بن گئے، اسی طرح فرمایا کہ: إِنَّمَا نَجْعَلُ  
 لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَّيْنِ وَهَدَيْنِ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں  
 دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے۔ دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک کیسے اپنی  
 نعمتیں یاد دلاتا ہے اور ان نعمتوں کو یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان بیدار  
 ہو جائے، کاے بندے ذرا اتنا تو سوچ کہ میں تجھ پر اپنی نعمتیں بر سار ہا ہوں لیکن  
 تیرے اندر شکر کی کمی ہے، جب آدمی اس طرح سوچے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مجھ پر  
 رحمتیں نازل فرم رہا ہے اور مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں نہیں  
 کر رہا ہوں تو اس کو احساس ہو گا اور یہ احساس اس کی زندگی میں حیاء پیدا کرے گا،  
 اور جب زندگی میں حیا آتی ہے تو اس پر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس  
 پر انوارات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق  
 گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمائیں خدا رسول پر عمل کرنے کی سعادت  
 نصیب فرمائے۔ آمین

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ جَمِيعِهِنَّ

وَأَخْرُدُّهُ وَأَنَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## افتباں

قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا کہ وَعَاشُرُوْهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو، ان کے  
 ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حضور ﷺ نے اپنے وصال  
 کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی  
 کہ عورتوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا بلکہ قرآن  
 پاک نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی عادت  
 ناپسند ہے تو اس کو برداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے  
 پیٹ سے وقت کا امام بخاری پیدا کرے جو اپنے وقت کے بڑے  
 امام بنیں گے اور زمانہ کی باغ ڈوران کے ہاتھ میں ہونگی،  
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ تعَالَى نے تمہارے لئے جو  
 اولاد طے کی ہے اس کو تم تلاش کرتے رہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ

الحمد لله نحمنه و نستعينه و نستغفر له و نومن به و نتوكل عليه  
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهدى الله فلا  
ضل له ومن يضل الله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده  
لا شريك له ، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى  
الله تبارك وتعالى عليه وعلى ائمما الصحابة وازواجهم وذرياتهم واهل  
بيته واهل طاعته وبارك وسلم تسليماً كثيراً ، اما بعد فاعوذ  
بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم ، الْرَّجَالُ قَوَّامُونَ  
عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُظُ عَلَيْهِنَّ  
نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا وَقَالَ تَعَالَى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا صدق الله  
العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين  
والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

## عورت انسان کی فطرت ہے

محترم بھائیو بزرگوار دوستو!

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بہترین نعمتیں اور جنت کا گھر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات پیدا فرمائی ہے کہ جب تک اس کو زندگی کا ساتھی میسر نہ ہو، اس کو دیواریں کاٹنے کو دوڑتی ہیں، اس کو زندگی کا مزا اور لطف محسوس نہیں ہوتا، انسان کو انسان اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں انسان کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے سے انس حاصل کرنے والا۔

پتہ چلا کہ انسان معاشرہ کے اندر رہ کر ہی زندگی کا مزا حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں اکیلا پن اور وحشت محسوس ہونے لگی، حضرت آدم علیہ السلام کو تنهائی کی وجہ سے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آپ کی بیوی بنا کر سیدتا حضرت حواء علیہا السلام کو پیدا فرمایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کو لطف کے ساتھ گزار سکے، اس منظر کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے کہ:

وَقُلْنَا يَا آدُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا :

کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے فراوانی کے ساتھ کھاؤ، مگر ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا واقعہ مکمل آپ جانتے ہیں، میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے بغیر صحیح معنوں میں زندگی نہیں ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے، اسی لئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت جیسے مقام میں بھی تہادل نہیں لگا۔

## شادی آدھا ایمان ہے

اور جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا صاحب مشکوہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ: مَنْ تزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ شَطَرُ الْإِيمَانَ: جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان پورا کر لیا، پتہ چلا کہ شادی کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، جس نے شرعی طور پر نکاح کیا اس نے گویا اپنا آدھا ایمان مکمل کیا، اسی لئے جہاں نوجوانوں کا مجمع ہوتا تھا نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغْضُصُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ: کہاں نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے وہ شخص جو بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، اس کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، اس کے کپڑے اور مکان کا انتظام کر سکتا ہو، اسے چاہئے کہ وہ جلدی شادی کر لے، اس لئے کہ شادی نگاہ اور شرمنگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس بیوی کو کھلانے پلانے مکان اور کپڑے کا نظم نہ ہو، اس کو چاہئے کہ روزہ رکھے، اس لئے کہ روزے سے خواہشات دب جاتی ہیں۔

## عورت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے

آیات قرآنی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لئے کہ قرآن کے انداز بیاں کے مطابق عورت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكُنُوا إِلَيْهَا: جس کا ترجمہ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیوی کو تم ہی سے پیدا فرمایا تا کہ تم سکون حاصل کر سکو۔

لیکن عورت کی کچھ کمزوریاں فطری ہیں، عورت کو اللہ رب العزت نے باہمیں پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یہ چند کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھی ہے، آپ چاہو کہ ہماری بیوی رابعہ بصریہ بن جائے تو یہ بہت دور کی بات ہے، انسان کا کمال ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ صحیح معنی میں زندگی گزارے۔ وہ کسی چیز پر غصہ ہو جائے تو کچھ زیادہ ہی غصہ ہو جائے گی کسی چیز پر راضی ہو جائے تو اسی میں خوش رہے گی وغیرہ وغیرہ، جو فطرتًا کمزور ہونے کی دلیل ہے۔

## مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہے

اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو باہمیں پسلی سے پیدا فرمایا کہ شوہر کے دماغ کو بھی سیدھا کیا کہ کہیں کوئی انسان عورت کو گھٹیانہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ اس کی بیوی اسکی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کے اندر سے پیدا ہوئی ہے، قرآن پاک نے اس فلسفہ کو دو مقام پر ذکر فرمایا، سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُنَى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مُنْكِمٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِي :** اور پانچویں پارے میں فرمایا: **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ**: ان دونوں آئیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں اس کو بھیوں سمجھو کہ بدن کے دو ہاتھ ہیں ایک سیدھا ہاتھ ہے، اور ایک بایاں ہاتھ ہے، لیکن

سید ہے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے، اور بائیں ہاتھ میں کم ہے، معلوم ہوا کہ مرد اگر سید ہا  
ہاتھ ہے تو عورت بایاں ہاتھ ہے لیکن اسی بدن کا حصہ ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں  
ایسی ضرورتی ہیں جن کی وجہ سے وہ عورت سے افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کا بھی ایک  
مقام ہے۔ جس کو اسلام نے مختلف موقع پر بیان فرمایا ہے۔

## خطبہ نکاح میں تقویٰ کا حکم کیوں؟

اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا  
کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور وہ  
اس لئے کہ بتلایا گیا کہ ایک عورت تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا اس  
کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہوگا، وہ آیت یہ ہے، **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ**  
**الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا**  
**كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ**  
**رَقِيبًا**: ترجمہ: اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور مرد  
سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعہ بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا  
اور اللہ سے ڈرو جس سے تم قرابت داری کا واسطہ دے کر مانگتے ہو، بے شک اللہ تم پر  
نگہبان ہے۔ یہاں بندہ مومن کو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ نکاح تو خوشی کا موقع  
ہے، اور اسلام انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے خوشی کے وقت خوشی کے احکام دیتا ہے،  
اور غم کے وقت آنسو بہانے کے بھی اجازت ہے، لیکن شادی میں خوشی منانے کا حکم دینے  
کے بجائے ڈرنے کا حکم صادر فرمایا ایسا کیوں؟ علماء مفسرین نے اس کا جواب یوں دیا ہے

کہ نکاح کے وقت ڈرنے کا حکم دے کر دراصل اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے پاس بطور امانت دیا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی عظمت میں مغلوب ہو کر بیوی کو اس کے جائز حقوق سے بھی محروم کر دو، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں مغلوب ہو کر ماں باپ کا تقدس ان کا ادب و احترام ختم کر دو، اس لئے اس وقت خاص طور پر ڈرنے کا حکم فرمایا، اور بتلایا کہ اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا وقت آگیا ہے اب تک تم اکیلے تھے، اب تمہارے دونوں طرف دو ڈگر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی تلاش میں دوسرے کا حق ضائع کر دو، اس لئے بطور خاص ڈرنے کا حکم فرمایا۔

## خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

قرآن پاک نے سورہ نساء میں نصیحت کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، حضور اکرم ﷺ نے اپنے وصال کے وقت جہاں بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ عورتوں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اسلام کا مزاج تو ایسا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے تو اس پر صبر کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی کوکھ میں تمہارے لئے وقت کا امام بخاری پیدا فرمادے۔ کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بشرطیکہ صبر اللہ کیلئے ہو تو خود اللہ نے فرمایا یہیکہ ان الله مع الصابرين بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

## عورتیں اپنے آپ کو مثالی بنائیں

اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ عوت جب بہوبن کر آئے تو اس کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مثالی عورت بنائے، اپنے ساس سر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، اور ساس سراس کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں، آج کل میاں یوں کے جتنے مسائل ہیں، تقریباً تمام کا تعلق اسی طرح کے جھگڑوں سے ہوتا ہے، اپنا نیت سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور عورت کا سب سے بڑا ذیور یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، جو عورت جتنا زیادہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ اتنی ہی مقبول بندی ہوگی۔ قرآن پاک نے عورتوں کی ایک صفت بیان فرمائی، حافظات للغیب، یعنی کہ عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے تمام امور کی حفاظت کرتی ہیں، اور گھر کا پورا کام بھی سنبھالتی ہیں یہ عورت کا مرد پر بہت بڑا احسان ہے۔

## عورتوں کے بھی حقوق ہیں

قرآن پاک نے کہا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِّي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ،، جتنے حقوق اسلام نے مردوں کو دیئے ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کو بھی دیئے ہیں، ہمارے علماء کرام سے بھی کہوں گا جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر ہم بتلاتے ہیں وہیں مردوں پر عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں ان کو بھی بیان کریں۔ اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیئے ہیں خود نبی پاک ﷺ چاندنی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیکر نکلتے تھے اور دوڑ لگاتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں ہڈی چوتی تو

آپ ﷺ فرماتے کہ عائشہؓ میرے لئے بچا کر رکھنا، یہ وہ طریقے ہیں جن پر عمل کرنے سے میاں بیوی کی آپسی محبت قائم رہے گی۔

## بیوی سے محبت تقویٰ ہے

حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ سب سے بڑا متقی وہ ہے جس کے دل میں بیوی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، کسی نے پوچھا کہ حضرت! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے جتنی زیادہ محبت کرے گا وہ اتنا کم دوسرا عورتوں کو دیکھے گا، اس لئے جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! عورت کے ساتھ حسن سلوک سے ثواب کیوں ملتا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہی انسان اپنے جذبات کی تسکین کے لئے کسی پرانی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو گناہ ہوتا، اس نے اللہ سے ڈر کر شرعی طریقہ پر نکاح کر کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔

## میراث میں عورت کا حصہ

اسلام نے میراث کے باب میں بھی عورت کا خیال رکھا ہے کہ اس کو میراث ملے گی، اس کو مرد کے مقابلہ میں سنگل دیا جائے گا، یعنی اگر کسی کو ایک لڑکی ہے اور اس کی عورت بھی نہیں ہے، تو مال کے تین حصے کئے جائیں گے، لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو میراث میں مرد

کے مقابلہ میں سنگل کیوں دیا، برابر کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ یوئی ہے تو اس کا خرچ اس کا شوہر اٹھائے گا، اگر وہ مال ہے تو اس کے بیٹھے اس کی دیکھ بھال کریں گے، اگر وہ بہن ہے تو بھانیوں کے ذمہ اس کا حق ہو گا، بلکہ بھائی کو وجود و حصے ملے ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گے، اس لئے کہ اس کے پیچھے اخراجات ہیں، لگر چلانا ہے، اسکوں کی فیس ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہن کو جو ایک حصہ ملا ہے وہ باقی رہ جائے گا اس لئے کہ اس کو کچھ خرچ کرنا ہی نہیں ہے۔

## زمزم ایک خاتون کی قربانی کا نتیجہ

اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا آج ہی میں نے مستورات کے اجتماع میں کہا کہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے صرف السلام علیکم کہا تھا، اور ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے جارہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جارہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے فرمایا آپ خوشی سے جائے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عنایت فرمایا جس نام اسما علیل رکھا گیا، انہی دونوں کی قربانیوں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمم کا کنوں نمودار فرمایا جس سے لوگ زمم پیتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کے لئے بھی لیکر آتے ہیں، لیکن الحمد للہ بھی وہاں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک خاتون کی قربانی ہے جس کا پھل اللہ رب العزت نے کتنا عمدہ عطا فرمایا، ورنہ دنیا کے تمام کنوں سوکھ جاتے ہیں، ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اور اس پانی کا مقام بھی بہت اونچا ہے، نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ، مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا

شُرِبَ لَهُ، کہ زمزم پیتے وقت جونیت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح عورت کا مقام اور اس کا مرتبہ اس بات بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر سات مرتبہ دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس خاتون کا دوڑ لگانا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ کو لازم قرار دیا کہ جب تک دوڑ نہیں گاؤ گے تمہارا حج مکمل نہیں ہو گا، تمہارا عمرہ پورا نہیں ہو گا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لطف مبارکہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔

## مرد حضرات ذہن سازی کا کام کریں

ان عورتوں کی تربیت اور ان کا ذہن بنانا مردوں کا کام ہے، اس لئے مرد عورت پر و پیغم بری خرچ کرتا ہے اور اصول ہے کہ: **الإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ**، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، انسان محسن کے احسان کے نیچے دبارہ تھا ہے، مرد اس کے لئے خریدی کرتا ہے اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، اب اگر وہ اس کو نماز روزے کی تاکید کرے گا تو عورت فوراً اس کی بات کو مان لے گی، مگر یہ سب ہم کو کہاں آتا ہے ہم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں، جب کسی عورت کا ذہن دینی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بڑے بڑے صلحاء پیدا فرماتے ہیں، وہ دونوں خاندانوں کے لئے اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، اور میرے بھائیو ہم اپنے گھر میں پیار محبت سے پیش آئیں عورتوں پر ہرگز ظلم نہ کریں، اگر وہ نافرمان بن جائے تو اس کو پیار اور محبت سے دین کی باتیں سمجھاؤ، دیکھو! اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نرم دل

پیدا کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کتنی ہی زیادتی کی ہو، لیکن ایک جملہ اس کو پیار بھرا کہہ د تو فوراً نرم ہو جائے گی۔ عورتوں کو دھمکیاں دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا کرنے سے بچوں کا ذہن بھی جھگڑا لو بن جاتا ہے، اس لئے جھگڑے وغیرہ سب بالائے طاق رکھیں، خوشی خوشی زندگی گزاریں، جھگڑے کے لئے ہمارے پاس تائماً ہی کہاں ہے؟ اللہ کے دین کا کام ہمیں کرنا ہے، اب کچھ وقت نکال کر ہم گھر آئیں اور اس میں بھی جھگڑا کریں تو سکون کہاں ملے گا؟ اس لئے مل جل کر رہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک کو غصہ آئے تو دوسرا خاموش رہے، اس کا جواب نہ دے، مثلاً شوہر کو غصہ آیا تو بیوی خاموش رہے، اور بیوی کو غصہ آیا تو شوہر خاموش رہے ان شاء اللہ زندگیاں سکون و عافیت کے ساتھ گزریں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عافیت والی زندگیاں عطا فرمائیں آمین۔

وَصَلِّ اللَّهُو سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْبَيْرِ وَالصَّاحِبَيْرِ جَمِيعِينَ

وَالْخَرْدُو عَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ